



The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi.

004/24/ABA-36

June 25, 2024

Subject: Submission of Final Offer Document of Right Issue

Dear Sir,

This is in reference to your letter Ref No. PSX.C-461-645 dated May 07, 2024 and Regulation 3 (3) of Companies (Further Issue of Shares) Regulations, 2020 where the Company issuing right shares is required to submit Final Offer Document to Pakistan Stock Exchange and Securities and Exchange Commission of Pakistan.

Please also note that the draft Offer Document has already been shared with PSX as well as SECP on May 17, 2024.

In this regard, we are enclosing herewith the Final Offer Document. We are also submitting the same to Securities and Exchange Commission of Pakistan.

Thanking you

Yours faithfully
for KSB PUMPS COMPANY LIMITED


FAISAL AMAN KHAN
Company Secretary

Encl: As stated above

Copy to:

Mr. Umair Ahmed
Additional Joint Director, PMADD
Securities Market Division,
Securities & Exchange Commission of Pakistan,
NIC Building, 4-Blue Area, Islamabad

KSB PUMPS COMPANY LIMITED

Registered Office: 16/2, Sir Aga Khan Road, Lahore, Pakistan · Tel. +92 42 111 572 786, +92 42 36304173-4
Fax +92 42 36366192 · Email: info@ksb.com.pk · <https://www.ksb.com/en-pk>

Works: Hazara Road, Hassanabdal, Pakistan · Tel. +92 57 2520236 · Fax +92 57 2520237 · Email: info@ksb.com.pk · <https://www.ksb.com/en-pk>

ADVICE FOR INVESTORS

INVESTMENT IN EQUITY SECURITIES AND EQUITY RELATED SECURITIES INVOLVES A CERTAIN DEGREE OF RISK. THE INVESTORS ARE REQUIRED TO READ THE RIGHTS SHARE OFFER DOCUMENT (*HEREIN REFERRED TO AS 'OFFER DOCUMENT'*) AND RISK FACTORS CAREFULLY, ASSESS THEIR OWN FINANCIAL CONDITIONS AND RISK-TAKING ABILITY BEFORE MAKING THEIR INVESTMENT DECISIONS IN THIS OFFERING.

RIGHT ENTITLEMENT LETTER IS TRADABLE ON PSX, RISKS AND REWARDS ARISING OUT OF IT SHALL BE SOLE LIABILITY OF THE INVESTORS.

THIS DOCUMENT IS ISSUED FOR THE PURPOSE OF PROVIDING INFORMATION TO SHAREHOLDERS OF THE COMPANY AND TO THE PUBLIC IN GENERAL IN RELATION TO THE RIGHTS ISSUE OF PKR 1,947,000,000 CONSISTING OF 17,700,000 NEW ORDINARY SHARES BY KSB PUMPS COMPANY LIMITED. A COPY OF THIS DOCUMENT HAS BEEN REGISTERED WITH THE SECURITIES EXCHANGE.

THIS OFFER DOCUMENT IS VALID TILL OCTOBER 15, 2024 (60 days from the last day of payment of subscription amount)



KSB PUMPS COMPANY LIMITED
Right Share - Offer Document

Date and place of incorporation: July 18, 1959, Lahore, **Incorporation number:** 0001024, **Head Office:** 16/2, Sir Aga Khan Road, Lahore, **Contact No:** +92-42-111-572-786, **Website:** <https://www.ksb.com/en-pk/>, **Contact Person:** Mr. Faisal Aman Khan, Phone: +92(42) 111-572-786, **Email:** faisal.aman@ksb.com.pk

Issue Size: The Issue consists of 17,700,000 Right Shares (i.e. approximately 134.0909% of existing paid-up capital of KSB Pumps Company Limited) having face value of PKR 10/- each at an offer price of PKR 110/- each (including a premium of PKR 100/- per share). The total amount to be raised through the right issue is PKR 1,947,000,000.

Date of Placing Offer Document on PSX for Public Comments:	N/A (Public comments are not being sought)
Date of Final Offer Letter:	June 25, 2024
Date of Book Closure:	From July 04, 2024 to July 10, 2024
Subscription Amount Payment Dates:	From July 18, 2024 to August 16, 2024
Trading Dates for Letter of Rights:	From July 18, 2024 to August 08, 2024

Details of the relevant contact persons:

	Name of the Person	Designation	Contact Number	Office Address	Email ID
Authorized Officer of the Issuer	Mr. Faisal Aman Khan	Company Secretary	+92(42) 111-572-786	16/2 Sir Agha Khan Road Lahore	faisal.aman@ksb.com.pk
Underwriters to the Issue					
Arif Habib Limited	Mr. Taha Siddiqui	Chief Financial Officer	+92 (21) 111-245-111	2/F, Arif Habib Centre, 23, M.T. Khan Road, Karachi	taha.siddiqui@arifhabibltd.com
Dawood Equities Limited	Mr. Abdul Aziz Habib	Chief Executive Officer	+92 (21) 32275200	17th Floor, Saima Trade Tower 'A', I.I. Chundrigar Road Karachi	aziz@dawoodequities.com
Bankers to the Issue					
Habib Metropolitan Bank Limited	Syed Mairaj Hassan	Team Lead Sales (South) Transaction Banking	+92 (21) 32644571	Spencer's Building, Transaction Banking, Mezzanine Floor, I.I. Chundrigar Road, Karachi	Mairaj.hassan@habibmetro.com

This Offer Document can be downloaded from <https://www.ksb.com/en-pk/investor-relations/investor-information> and <https://www.psx.com.pk/>

(This space has been left blank intentionally)

Undertaking by the Chief Executive Officer and Chief Financial Officer

A760496 



UNDERTAKING BY CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF FINANCIAL OFFICER

"WE, IMRAN GHANI, THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND IMRAN AHMED, CHIEF FINANCIAL OFFICER OF KSB PUMPS COMPANY LIMITED CERTIFY THAT:

- (i) THE OFFER DOCUMENT CONTAINS ALL INFORMATION WITH REGARD TO THE ISSUER AND THE ISSUE, WHICH IS MATERIAL IN THE CONTEXT OF THE ISSUE AND NOTHING HAS BEEN CONCEALED IN THIS RESPECT;
- (ii) THE INFORMATION CONTAINED IN THE OFFER DOCUMENT IS TRUE AND CORRECT TO THE BEST OF THEIR KNOWLEDGE AND BELIEF;
- (iii) THE OPINIONS AND INTENTIONS EXPRESSED THEREIN ARE HONESTLY HELD;
- (iv) THERE ARE NO OTHER FACTS, THE OMISSION OF WHICH MAKES THE OFFER DOCUMENT AS A WHOLE OR ANY PART THEREOF MISLEADING; AND
- (v) ALL REQUIREMENTS OF THE COMPANIES ACT, 2017, THE COMPANIES (FURTHER ISSUE OF SHARES) REGULATIONS, 2020, THE CENTRAL DEPOSITORY COMPANY AND THAT OF PSX PERTAINING TO THE RIGHT ISSUE HAVE BEEN FULFILLED."

For and on behalf of KSB PUMPS COMPANY LIMITED


IMRAN GHANI
 Chief Executive Officer


IMRAN AHMED
 Chief Financial Officer


ATTESTED
 KANA MALIK HUSSAIN
 Oath Commissioner

Undertaking by the Company Secretary an officer of the Company authorized by the Board of directors of the company in this behalf

AH093738



100
Rupees


LAHORE

Undertaking by the Company Secretary an officer of the Company authorized by the Board of directors of the company in this behalf

Dated: 14/06/2024

I, THE COMPANY SECRETARY, AS AUTHORIZED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY HEREBY CONFIRM THAT:

- I. ALL MATERIAL INFORMATION AS REQUIRED UNDER THE COMPANIES ACT, 2017, THE SECURITIES ACT, 2015, COMPANIES (FURTHER ISSUE OF SHARES) REGULATIONS, 2020, THE LISTING OF COMPANIES AND SECURITIES REGULATIONS OF THE PAKISTAN STOCK EXCHANGE LIMITED HAS BEEN DISCLOSED IN THIS OFFER DOCUMENT AND THAT WHATEVER IS STATED IN OFFER DOCUMENT AND IN THE SUPPORTING DOCUMENTS IS TRUE AND CORRECT TO THE BEST OF OUR KNOWLEDGE AND BELIEF AND THAT NOTHING HAS BEEN CONCEALED.
- II. WE UNDERTAKE THAT ALL MATERIAL INFORMATION, INCLUDING RISKS THAT WOULD ENABLE THE INVESTOR TO MAKE AN INFORMED DECISION, HAS BEEN DISCLOSED IN THE OFFER DOCUMENT.
- III. RIGHT ISSUE IS THE DISCRETION OF BOARD OF THE ISSUER AND IT NEITHER REQUIRE APPROVAL OF THE COMMISSION NOR THE SECURITIES EXCHANGE.
- IV. THE DRAFT OFFER DOCUMENT WAS PLACED ON THE WEBSITE OF THE SECURITIES EXCHANGE AND THE ISSUER, ON 30TH APRIL 2024 (I.E. WITHIN 45 DAYS OF THE DATE OF ANNOUNCEMENT BY THE BOARD.
- V. COMMENTS FROM SECURITIES EXCHANGE AND THE SECP WERE RECEIVED ON 5TH JUNE, 2024
- VI. THE BOARD HAS ENSURED THAT DRAFT OFFER DOCUMENT IS UPDATED IN LIGHT OF THE SECURITIES EXCHANGE AND SECP COMMENTS.
- VII. THE BOARD HAS DISCLOSED ON PSX'S AND COMPANY'S WEBSITE, ALL THE COMMENTS RECEIVED ALONG WITH THE EXPLANATIONS AS TO HOW THEY ARE ADDRESSED.
- VIII. THE FINAL OFFER DOCUMENT WAS SUBMITTED TO THE COMMISSION AND PLACED ON SECURITIES EXCHANGE WEBSITE ON JUNE 25 2024 ALONG WITH THE BOOK CLOSURE DATES AND RELEVANT RIGHT ISSUANCE TIMELINES. (I.E. WITHIN 20 WORKING DAYS FROM THE DATE OF RECEIPT OF COMMENTS OF PSX & SECP).
- IX. THE STATUTORY AUDITOR M/s. A.F. FERGUSON & CO. OF THE ISSUER SHALL SUBMIT HALF YEARLY REPORT TO THE ISSUER REGARDING UTILIZATION OF PROCEEDS IN THE MANNER REFERRED TO IN THE FINAL OFFER DOCUMENT. THE ISSUER WILL INCLUDE THE REPORT OF THE STATUTORY AUDITOR, ALONG WITH ITS COMMENTS THEREON, IF ANY, IN ITS HALF YEARLY AND ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS.

For and on behalf of KSB PUMPS COMPANY LIMITED


 Faisal Aman Khan
 Company Secretary


ATTESTED
 M. Yousaf Shahid
 Advocate High Court
 Oath Commissioner

DISCLAIMER:

- i. In line with Companies Act, 2017 and Companies (Further Issue of Shares) Regulations, 2020, this document does not require approval of the Securities Exchange /Pakistan Stock Exchange Limited and the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP).
- ii. The Securities Exchange and the SECP disclaims:
 - a. Any liability whatsoever for any loss however arising from or in reliance upon this document to any one, arising from any reason, including, but not limited to, inaccuracies, incompleteness and/or mistakes, for decisions and/or actions taken, based on this document.
 - b. Any responsibility for the financial soundness of the Company and any of its schemes/projects stated herein or for the correctness of any of the statements made or opinions expressed with regards to them by the Company in this Offer document.
 - c. Any responsibility with respect to quality of the issue.
- iii. It is clarified that information in this Offer Document should not be construed as advice on any particular matter by the SECP and the Securities Exchange and must not be treated as a substitute for specific advice.

(This space has been left blank intentionally)

GLOSSARY OF TECHNICAL TERMS

ACT	Securities Act, 2015
CDC	Central Depository Company of Pakistan Limited
CDS	Central Depository System
Companies Act	Companies Act, 2017
IAS	Investor Account Services
LoR	Letter of Rights
Mn	Million
NICOP	National Identity Card for Overseas Pakistani
PKR or Rs.	Pakistan Rupee(s)
PSX /Securities Exchange	Pakistan Stock Exchange Limited
USD	United States Dollar

(This space has been left blank intentionally)

DEFINITIONS

Application Money	The total amount of money payable by existing shareholder which is equivalent to the value of shares to be allotted.
Banker to the Issue	Habib Metropolitan Bank Ltd has been appointed, in this Right Issue, as the Banker to the Issue, with whom an account is opened and maintained by the Issuer for keeping the issue amount.
Book Closure Dates	The Book Closure shall commence from July 04, 2024 to July 10, 2024 (both days inclusive).
Company	KSB Pumps Company Limited (the “ Company ” or “ KSBP ” or the “ Issuer ”).
Commission	Securities and Exchange Commission of Pakistan (“ SECP ”).
Issue	Issue of 17,700,000 Right Shares representing approximately 134.0909% of total paid-up capital of the Company.
Issue Price	The price at which Right Shares of the Company are issued to the existing shareholders (PKR 110/- per share).
Ordinary Shares	Ordinary Shares of KSB Pumps Company Limited having face value of PKR 10/- each.
Regulations	Companies (Further Issue of Shares) Regulations, 2020 https://www.secp.gov.pk/document/the-companies-further-issue-of-shares-regulations-2020-updated-march-4-2024/?wpdmdl=51188&refresh=663b4dc3873b51715162563
Right Issue	Shares offered by a company to its members strictly in proportion to the shares already held in respective kinds and classes.
Sponsor	A person who has contributed initial capital in the issuing company or has the right to appoint majority of the directors on the board of the issuing company directly or indirectly; A person who replaces the person referred to above; and A person or group of persons who has control of the issuing company whether directly or indirectly.

Table of Contents

1. SALIENT FEATURES OF THE RIGHT ISSUE	9
1.1. BRIEF TERMS OF THE RIGHT ISSUE.....	9
1.2. PRINCIPAL PURPOSE OF THE ISSUE AND FUNDING ARRANGEMENTS	11
1.3. FINANCIAL EFFECTS ARISING FROM RIGHT ISSUE	13
1.4. TOTAL EXPENSES TO THE ISSUE	13
1.5. DETAILS OF UNDERWRITERS.....	14
1.6. COMMITMENTS FROM SUBSTANTIAL SHAREHOLDERS/DIRECTORS.....	14
1.7. FRACTIONAL SHARES	14
1.8. IMPORTANT DATES	14
2. SUBSCRIPTION AMOUNT PAYMENT PROCEDURE.....	16
3. PROFILES OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY AND SPONSORS	17
3.1. PROFILE OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY	17
3.2. DIRECTORS DIRECTORSHIP IN OTHER COMPANIES	19
3.3. PROFILE OF THE SPONSORS	20
4. DETAILS OF THE ISSUER.....	20
4.1. FINANCIAL HIGHLIGHTS OF THE ISSUER FOR THE LAST THREE YEARS	20
4.2. FINANCIAL HIGHLIGHTS OF PRECEDING ONE YEAR OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS	20
4.3. DETAILS OF ISSUE OF CAPITAL IN PREVIOUS FIVE YEARS	21
4.4. AVERAGE MARKET PRICE OF THE SHARE OF THE ISSUER DURING THE LAST SIX MONTHS	21
4.5. SHARE CAPITAL AND RELATED MATTERS	21
5. RISK FACTORS.....	22
5.1. RISK ASSOCIATED WITH THE RIGHT ISSUE.....	22
5.2. RISK ASSOCIATED WITH ISSUER	22
6. LEGAL PROCEEDINGS:	26
6.1. OUTSTANDING LEGAL PROCEEDINGS OF THE COMPANY	26
6.2. Any outstanding legal proceeding other than the normal course of business involving the issuer, its sponsors, substantial shareholders, directors and associated companies, over which the Issuer has control, that could have material impact on the issuer.....	28
6.3. Action taken by the securities exchange against the issuer or associated listed companies of the issuer during the last three years due to noncompliance of its regulations	28
7. SIGNATORIES TO THE OFFER DOCUMENT	28

1. SALIENT FEATURES OF THE RIGHT ISSUE

1.1. BRIEF TERMS OF THE RIGHT ISSUE

a)	Description of Issue	Issuance of Right Shares to existing shareholders
b)	Size of the proposed Issue	The Company shall issue 17,700,000 (Seventeen Million, Seven Hundred Thousand) ordinary shares, at a price of PKR 110/- (Pak Rupees One Hundred and Ten) per share, aggregating to PKR 1,947,000,000/- (Pak Rupees One Billion, Nine Hundred Forty-Seven Million).
c)	Face Value of the Share	PKR 10/-
d)	Basis of determination of price of the right issue	The Right Issue is being carried out at a premium. Considering the current market price of the Company, the premium charged over the par value is justified and is in line with market practice.
e)	Proportion of new issue to existing shares with any condition applicable thereto	Approximately 134.0909 right shares for every 100 ordinary shares held i.e. Approximately 134.0909% of the existing paid-up capital of the Company.
f)	Date of meeting of Board of Directors (BoD) wherein the right issue was approved	April 29, 2024
g)	Name of directors attending the Board Meeting	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Sven Baumgarten, Chairman 2. Mr. Imran Ghani, Chief Executive Officer 3. Mr. Dieter Antonius Pott, Non-Executive Director 4. Ms. Hassan Aziz Bilgrami, Non-Executive Director 5. Ms. Ayesha Aziz, Independent Director 6. Mr. Asif Malik, Independent Director 7. Mr. Shahid Mehmood, Independent Director 8. Mr. Asim Rafiq, Nominee NIT
h)	Brief purpose of utilization of right issue proceeds	The purpose of the Right Issue is to meet the Capital Requirement of the Company to effectively implement its business with a view to enhance the profitability of the Company. This aligns with the Company's broader strategy to fortify its financial position in order to enhance profitability and, consequently, provide greater shareholder return.
i)	Purpose of the Right Issue: Details of the main objects for raising funds through present right issue.	To manage our company's working capital requirements and save finance costs. In the country's current economic environment, where interest rates have increased significantly, funding the Company's working capital requirements largely through bank and financial institution through debt is not a feasible or prudent option. Consequently, the funds raised through equity to be utilized for working capital purposes is a more prudent business and strategic approach, which will reduce

		finance costs significantly. The same is expected to positively impact profitability, ultimately generating improved results for shareholders.
j)	Minimum level of subscription' (MLS)	None

(This space has been left blank intentionally)

1.2. PRINCIPAL PURPOSE OF THE ISSUE AND FUNDING ARRANGEMENTS

Company intends to raise funds to meet growing working capital requirements and also repay debt financing availed for the working capital requirements of the business. The proceeds shall be utilized towards funding of the day-to-day working capital needs of the Company, thus ensuring smooth business operations by maintaining liquidity levels. This would enable the Company to have improved financial ratios and enhanced profitability which would collectively contribute to the maximization of shareholders' returns.

Given below is the break-up of utilization of right issue proceeds:

Purpose of the Issue	Proceeds Utilization (PKR)	% of Right Issue Proceeds
Working capital requirements	239,850,000	12.32%
Debt Repayment	1,707,150,000	87.68%
Total	1,947,000,000	100.00%

The envisaged working capital requirements of KSB will be met through the proceeds of the Right Issue which is essential for a sustained business growth.

Activities that are classified as working capital

The major activities for the purposes of working capital shall include (but are not limited to) the following:

- To manage our payables
- To maintain optimum level of inventories

The historical working capital requirements of the business are as follows:

Working Capital Requirement	2023	2022	2021
Inventory (Stock + Spares) (A)	1,542,693	1,322,924	1,564,143
Trade debts and contract assets (B)	2,271,998	2,295,584	2,157,015
Trade and other payables and contract liabilities (C)	2,388,102	1,965,687	1,893,607
Total (A+B-C)	1,426,589	1,652,821	1,827,551

Details of Working Capital Financing proposed to be repaid

Purpose of the Issue	Sanctioned Facilities in PKR Mn	Limit Utilized/OD in PKR Mn
Bank Alfalah Limited	250.00	131.51
Habib Bank Limited	1,000.00	163.97
Allied Bank Limited	800.00	651.44
Meezan Bank Limited	500.00	270.5
The Bank of Punjab	500.00	489.73
Total	3,050.00	1,707.15

The working capital facilities proposed to be repaid are secured against present and future current assets of company. In the country's current economic environment, where interest rates have increased significantly, funding the Company's working capital largely through banks / financial institution debt is not a feasible option. Consequently, equity raised funds utilized for working capital purpose is a more prudent business and strategic approach, which will reduce financing cost. The same is expected to positively impact profitability, ultimately generating improved results for shareholders. The Financial impact of loan repayment is substantial as it would save an annual financial cost of approximately PKR 372 Mn.

Basis of estimation of working capital requirement, along with relevant assumptions

The estimation of working capital requirements is based on a combination of historical and projected data, including the significant rise in input costs in the backdrop of high inflation, and PKR depreciation. Historically, the company maintained high inventory levels; however, owing to higher production costs resulting from exchange rate devaluation and inflation, the working capital requirement also surged in an environment with high interest rates. As a result, the company lowered its inventory levels and extended the payment terms with the suppliers to manage the working capital requirements. Looking ahead, with a strong order pipeline and the need to buffer against any potential import restrictions, the company plans to increase its inventory levels. Furthermore, the company aims to strengthen its relationships with suppliers and offer better payment terms to ensure a seamless supply chain in the longer term. Collectively, these factors have increased the working capital requirements necessary to support the smooth business operations of KSBP.

Reasons for raising additional working capital, substantiating the same with relevant facts and figures

Working capital is being raised to sustain and grow the Company's business while maximizing shareholders' returns. Owing to current economic situation including significant rise in input costs combined with a slowdown in business activities, overall operating cycle has been impacted in the FY 2023. The Company is not able to generate sufficient internal cash flows to meet its working capital requirements and is reliant on banks for its short-term needs. Given the unfavorable interest rate environment, funding the Company's working capital requirements largely through banks / financial institutions' debt is not a feasible option. Consequently, the company partly managed the working capital needs through a combination of lower inventory levels and extended payment terms to suppliers.

Therefore, in light of the above, utilizing equity raised funds for working capital purposes is a more prudent and strategic approach, which will reduce the dependency on short-term borrowings and consequently the finance cost. The Right Issue would help KSB to improve its liquidity and reduce finance cost, thereby maximizing returns to the shareholders'.

Cash Conversion Cycle in Number of days for last three years

		2023	2022	2021
Cash Conversion Cycle	<i>(days)</i>	129 ¹	162 ²	234 ³

¹ The cash conversion cycle for 2023 is calculated using Inventory Days Plus Receivable Days Minus Payable Days.

² The cash conversion cycle for 2022 is calculated using Inventory Days plus Receivable Days minus Payable Days.

³ The cash conversion cycle for 2021 is calculated using Inventory Days plus Receivable Days minus Payable Days.

1.3. FINANCIAL EFFECTS ARISING FROM RIGHT ISSUE

	Measurement Unit	Pre-Issue	Post Issue	Increase/ (decrease) in %
As at December 31, 2023				
Authorized Capital	PKR Mn	150	450	200%
Paid-up-Capital	PKR Mn	132	309	134%
Net Asset/ Breakup value per share	PKR	152.60 ⁴	128.20 ⁵	-16%
Gearing Ratio ⁶	%	N/A	N/A	N/A
Production Capacity	No. of Pump Produced/year	6,000	6,000	N/A
Market Share**	Percentage	38%	38%	N/A

Note: The numbers above are based on the Audited Financial Statements of the Company for the year ended December 31, 2023. ** Estimated based on market research and study.

1.4. TOTAL EXPENSES TO THE ISSUE

PSX Fee (0.2% of increase in paid-up capital)	PKR 354,000
Bankers Commission	-
Advisory Fees	0.9%
Underwriting Commission	0.6%
Underwriter Take-up Commission	1.50%
Bankers to the Issue – Out of Pocket	PKR 50,000
CDC – Fresh Issue Fee	PKR 2,803,680
CDC – Annual Fees for Eligible Security (Listing Fee)	PKR 400,000
SECP Supervisory Fee (10% of fees paid to PSX)	PKR 35,400
Auditor Fee for Auditor Certificates	PKR 500,000
Other expenses (including printing costs, lawyers and consultation fees, etc.)	PKR 10,000,000

⁴ The pre-issue Net Asset/Breakup value per share is calculated by dividing equity at 31st December, 2023, of PKR 2,014,373,000 by Pre-Issue number of shares 13,200,000.

⁵ The post-issue Net Asset/Breakup value per share is calculated by dividing the post issue equity of PKR 3,961,373,000 by post-issue number of shares 30,900,000.

⁶ The Gearing ratio cannot be calculated as the company does not have any long-term debt.

1.5. DETAILS OF UNDERWRITERS

Name of the Underwriter	Amount Underwritten in PKR	Associated Company/Associated Undertaking of the Issuer
Arif Habib Limited	500,486,140	No
Dawood Equities Limited	300,000,030	No

1.6. COMMITMENTS FROM SUBSTANTIAL SHAREHOLDERS/DIRECTORS

Name	Status	Number of Existing Shares	Number of Shares Committed to be subscribed ⁷	Amount Committed to be Subscribed in PKR	Shareholding % - pre issuance	Shareholding % - post issuance
M/S. KSB SE & Co. KGaA	Substantial Shareholder	7,772,975	10,422,853	1,146,513,830	58.89%	58.89%

1.7. FRACTIONAL SHARES

All fractional entitlements, if any, will be consolidated and unpaid letters of right in respect thereof shall be sold on the Pakistan Stock Exchange Limited, the net proceeds from which sale, once realized, shall be distributed / paid to the entitled shareholders in proportion to their respective entitlements as per the Regulations.

1.8. IMPORTANT DATES

KSB Pumps Company Limited			
Tentative Schedule for Issuance of Letter of Rights			
Book Closure: From July 04, 2024 to July 10, 2024 (both days inclusive)			
S.No	Procedure	Day	Date
a)	Date of credit of unpaid Rights into CDC in Book Entry Form	Thursday	July 11, 2024
b)	Dispatch of Letter of Right (LOR) to physical shareholders	Monday	July 15, 2024

⁷ These may be subscribed through persons arranged by the said directors as permitted under the Regulations.

c)	Intimation to PSX Dispatch/Credit of Letter of Right (LOR) to physical shareholders	Monday	July 15, 2024
d)	Commencement of trading of unpaid Rights on the Pakistan Stock Exchange Limited	Thursday	July 18, 2024
e)	Last date for splitting and deposit of Requests into CDS	Tuesday	July 30, 2024
f)	Last date of trading of Rights Letter	Thursday	August 08, 2024
g)	Last date for acceptance and payment of shares in CDC and physical form - Last payment date	Friday	August 16, 2024
h)	Allotment of shares and credit of book entry of Shares into CDC	Thursday	September 05, 2024
i)	Date of Dispatch of physical shares certificates	Friday	September 13, 2024

(This space has been left blank intentionally)

2. SUBSCRIPTION AMOUNT PAYMENT PROCEDURE

- a) Payment as indicated above should be made by cash or crossed cheque or demand draft or pay order made out to the credit of “**KSB Pumps Company Limited Right Shares Subscription**” through any of the authorized branches of above-mentioned bank on or before **August 16, 2024** along with the Right Subscription Request duly filled in and signed by the subscriber(s).
- b) Right Subscription Request can be downloaded from <https://www.ksb.com/en-pk/investor-relations/investor-information>
- c) In case of Non-Resident Pakistani / Foreign shareholder, the demand draft of equivalent amount in Pak Rupees should be sent to the Company Secretary, (KSB Pumps Company Limited) at the Registered Office of the Issuer along with Right Subscription Request (both copies) duly filled and signed by the subscriber(s) with certified copy of NICOP / Passport well before the last date of payment.
- d) All cheques and drafts must be drawn on a bank situated in the same city where Right Subscription Request is deposited. Cheque is subject to realization.
- e) The Banker to the Issue will not accept Right Subscription Request delivered by post which may reach after the closure of business on **August 16, 2024**, unless evidence is available that these have been posted before the last date of payment.
- f) Payment of the amount indicated above to the Issuer’s Banker to the Issue on or before **August 16, 2024** shall be treated as acceptance of the Right offer.
- g) After payment has been received by the Company’s Banker to the Issue, the Right Securities will be credited into respective CDS Accounts within 14 business days from the last payment date. Paid Right Subscription Request will not be traded or transferred.
- h) **Online Payment option for Investor Account Services (IAS) Account Holders/Sub Account Holders:** CDC has introduced online payment facility through 1link for Rights Subscription. The investor account holders can now make online payment for their respective rights subscribed against 1Bill payment ID printed on the top right of the subscription request (generated by CDS) through all the available online banking channels of 1Links member banks (such as internet banking, Automated Teller Machine (ATM) and Mobile banking).

(This space has been left blank intentionally)

3. PROFILES OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY AND SPONSORS

3.1. PROFILE OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY

BOARD OF DIRECTORS	DESIGNATION	LAST DATE OF APPOINTMENT
Dr. Sven Baumgarten	Chairman	25/04/2023
Mr. Imran Ghani	Chief Executive Officer	25/04/2023
Mr. Dieter Antonius Pott	Non-Executive Director	25/04/2023
Mr. Hassan Aziz Bilgrami	Non-Executive Director	25/04/2023
Ms. Ayesha Aziz	Independent Director	25/04/2023
Mr. Asif Malik	Independent Director	25/04/2023
Mr. Shahid Mehmood	Independent Director	25/04/2023
Mr. Asim Rafiq	Nominee NIT	25/04/2023

Dr. Sven Baumgarten **Chairman**

Dr. Sven Baumgarten joined KSB Aktiengesellschaft (now KSB SE & Co. KGaA) in 1997 and started his career in the R&D division for Engineered Pumps in Frankenthal / Germany. After various management positions in the Global Project Business organization of KSB (Vice President Sales Energy & Desalination, 2010 - 2015), Dr. Baumgarten became Managing Director of KSB Pumps and Valves (Pty) Ltd. in South Africa as well as Vice President Sub-Saharan Africa from 2015 to 2019. Since 2019 he is MD of KSB Middle East FZE in UAE and also in charge of the entire KSB Region Middle East, Africa & Russia as Regional Executive Officer.

Mr. Imran Ghani **Chief Executive Officer**

Mr. Imran Ghani holds the office of the Managing Director & CEO of KSB Pumps Company Limited. He obtained his Master's Degree in Mechanical Engineering from University of Engineering & Technology, Lahore, Pakistan and did his MBA from IBA – University of the Punjab, Lahore, Pakistan. His wide, diversified and extensive professional experience is spread over a period of above 29 years where he has performed at different key positions in multicultural environments throughout the course of his career. Mr. Ghani has an exhaustive experience related to Sales, After Sales and Engineering with a special emphasis on extremely large mechanical systems. He has attended a number of leadership & management courses, workshops and seminars in Pakistan as well as abroad, including a certification from Ken Blanchard which makes him a Certified Trainer of Situational Leadership. Mr. Ghani has very steadily progressed in multiple challenging roles in various global manufacturing companies where he has successfully leveraged strategy building abilities and effectively executed methods to achieve sales and profitability targets in the related markets. In his preceding assignment, he was Managing Director for Pakistan & Afghanistan, and Regional Business Manager for Middle East & Africa Region. His accomplishments & top performing business leadership showcased results in market development, business turnarounds and developing future leaders in Asia and the Middle East. Mr. Ghani is also serving on the Board of Directors of German Pakistan Chamber of Commerce & Industry (GPCCI) and holds the position of Senior Vice President.

Mr. Dieter Antonius Pott
Director

Mr. Dieter Antonius Pott is a member of Board of Directors of KSB Pakistan and also a member of its Audit Committee. After serving various senior positions of Finance & Accounting in different organizations, he joined KSB SE & Co. KGaA, Germany, in 2017 as Global Executive Officer Finance/Accounting.

Mr. Hassan Aziz Bilgrami
Director

Mr. Hasan A. Bilgrami is Chief Executive Officer of BioMasdar (Pakistan) Limited, a biotechnology startup that focuses on processing of natural products for applications in food, pharmaceuticals and cosmetic industries. Earlier in his career he worked as founding President & CEO of BankIslami Pakistan Limited. He has also been the President of Institute of Cost & Management Accountants between 2009-2011. He is also a member of the Board of Mehran Sugar Mills, Education Committee of Institute of Bankers in Pakistan & Quality Assurance Board of Institute of Chartered Accountants of Pakistan. Mr. Bilgrami is a commerce graduate of Karachi University as well as Fellow member of Institute of Cost & Management Accountants of Pakistan and CPA Australia.

Ms. Ayesha Aziz
Director

Ms. Aziz has a 28 years of financial sector experience in Project and Structured Finance, Debt Capital Markets, Asset Management and Private Equity. She has strong relationship with market participants and facilitators and a demonstrated understanding of regulations and market dynamics.

Mr. Asif Malik
Director

A mechanical engineer with advance management studies, and having over 30 years of professional journey spans a diverse spectrum of fields, including manufacturing, sales, marketing, sustainability, human resources, and business management. His career has involved intricate petrochemical facilities, complex trading and distribution networks, and diverse organizations such as Engro Chemicals, ICI/AkzoNobel, Midas Safety Inc., and US Apparel & Textiles. Mr. Malik is an alumnus of the INSEAD Business School and is privileged to have participated in the Technical Development Program at the prestigious Oxford University. He possesses an unwavering passion for driving positive change, business transformation, and combining profit with purpose and takes pride in championing diversity and inclusion, firmly believing that diverse and empowered teams drive innovation and ultimately leading to business success.

Mr. Shahid Mehmood
Director

Mr. Shahid Mahmood has worked at senior levels in heavy process industry and power plants. He is a Mechanical and Marine Engineer and holds the title of 'Professional Engineer' with Pakistan Engineering Council. In the recent past he has been working as an independent consultant for Power Projects, Heavy Process Plants, Operations & Maintenance, Team Development, Project Development, and is acting as a Technical Expert for Arbitration at International Courts of Arbitration. He also holds an MBA from Heriot Watt University(UK) and a PGD in Management Sciences from University of York (UK). At present he is Managing Director & CEO of GENCO Holding Company Limited since March 2023.

Mr. Asim Rafiq
Director

Mr. Asim Rafiq is a Fellow member of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP). He has over 25 years of diversified experience in accounting & audits, strategy and financial planning, taxation, software/ERP development and implementation, corporate affairs & Regulators' dealings in leading private and public sector organizations. He has also been a Director (Independent/Nominee) in diversified listed companies for over a decade. He completed his Chartered Accountancy from ICAP with training from A F Ferguson & Co. Chartered Accountants (PwC Pakistan); certification in International Financial Reporting Standards (IFRS) from the Institute of Chartered Accountants in England & Wales and certification in Internal Audit from the Institute of Internal Auditors, USA. He has also attended various national and international seminars & conferences. Also, he is a Certified Director from ICAP.

3.2 DIRECTORS DIRECTORSHIP IN OTHER COMPANIES

S. No.	Name	Designation	Directorship in Other Companies	Name of other Companies with Current Directorship
1	Dr. Sven Baumgarten	Chairman	NIL	NIL
2	Mr. Imran Ghani	Chief Executive Officer	NIL	NIL
3	Mr. Dieter Antonius Pott	Non-Executive Director	NIL	NIL
4	Mr. Hassan Aziz Bilgrami	Non-Executive Director	2	1. Mehran Sugar Mills 2. BioMasdar Pakistan Limited
5	Ms. Ayesha Aziz	Independent Director	4	1. Haleon Pakistan 2. Engro Polymer Co Ltd 3. Alfalah Asset Management Co 4. White Consulting (Pvt) Ltd
6	Mr. Asif Malik	Independent Director	NIL	NIL
7	Mr. Shahid Mehmood	Independent Director	6	1. JPCL (GENCO-I), Jamshoro 2. CPGCL (GENCO-II), Guddu 3. NPGCL (GENCO-III), Muzafargarh 4. LPGCL (GENCO-IV), Lakhra

				5. CPPA-G, Islamabad 6. Excel Consulting (Pvt) Ltd
8	Mr. Asim Rafiq	Nominee NIT	4	1. Buxly Paints Ltd 2. Merit Packaging Limited 3. Shahmurad Sugar Limited 4. Shahtaj Sugar Ltd

3.3 PROFILE OF THE SPONSORS

KSB SE & Co. KGaA

KSB SE & Co. KGaA is a German multinational manufacturer of pumps, valves with headquarters in Frankenthal (Pfalz), Germany. The KSB Group has manufacturing plants, sales and marketing organizations, and service operations worldwide. KSB SE & Co. The company's first Asian-Pacific subsidiary was set up in Pakistan in 1953.

KSB SE & Co. KGaA Germany holds **58.89%** shares in KSB Pumps Company Limited.

4 DETAILS OF THE ISSUER

4.1 FINANCIAL HIGHLIGHTS OF THE ISSUER FOR THE LAST THREE YEARS

	FY2023	FY2022	FY2021
	<i>Amounts in PKR Million</i>		
Name of the Statutory Auditor	A.F. Ferguson & Company, Chartered Accountant		
Revenue / Sales	5,755	4,965	4,334
Gross Profit	1,174	775	594
Profit before interest and tax	384	328	140
Profit after tax	0.843	43.342	27.290
Net profit	0.843	43.342	27.290
Accumulated profit	3.272	36.562	26.468
Total Assets	6,248	5,743	5,878
Total Liabilities	4,233	3,732	3,891
Net equity	2,014	2,012	1,987
Break-up value per share (PKR) ⁸	152.60	152.40	150.50
Earnings per share (PKR)	0.06	3.28	2.07
Cash Dividend (%)	0%	0%	8.5%
Bonus Issue (%)	0%	0%	0%

4.2 FINANCIAL HIGHLIGHTS OF PRECEDING ONE YEAR OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Not Applicable

⁸ The Breakup value per share is calculated as follows: Total Equity divided by number of shares.

4.3 DETAILS OF ISSUE OF CAPITAL IN PREVIOUS FIVE YEARS

Not Applicable

4.4 AVERAGE MARKET PRICE OF THE SHARE OF THE ISSUER DURING THE LAST SIX MONTHS

Average market price of the share of KSB Pumps Company Limited during the last six months (from October 30, 2023 – April 29, 2024) is PKR 126.06 per share.

4.5 SHARE CAPITAL AND RELATED MATTERS

Pattern of Shareholding of the Issuer:

Categories of shareholders	Shareholders	No. of Shares Held	% holding
Directors, Chief Executive Officer and their spouse(s) and minor children			
NIL	-	-	-
Associated Companies, undertakings and related parties			
M/S. KSB SE & Co. KGaA	1	7,772,975	58.89%
Sub total	1	7,772,975	58.89%
NIT and ICP	1	1,087,559	8.24%
Banks, DFIs, non-banking Financial Institutions	3	551,535	4.18%
Insurance Companies	1	256,273	1.94%
Modarabas and Mutual Funds	2	55,700	0.42%
General Public			
A) Local	1,036	3,116,654	23.61%
B) Foreign	7	18,200	0.14%
Others	17	341,104	2.58%
Total	1,068	13,200,000	100.00%

Shares held by Directors, Sponsors and Substantial Shareholders of the Issuer (both Existing and Post Right Issue):

Shares held by	Existing Shareholding	% share holding	Post Right Shareholding	% share holding
Substantial Shareholders	Shares held	%	Shares held	%
M/S. KSB SE & Co. KGaA	7,772,975	58.89%	18,195,828	58.89%

Details and shareholding of holding company:

KSB SE & Co. KGaA is a German multinational manufacturer of pumps, valves with headquarters in Frankenthal (Pfalz), Germany. The KSB Group has manufacturing plants, sales and marketing

organizations, and service operations worldwide. KSB SE & Co. The company's first Asian-Pacific subsidiary was set up in Pakistan in 1953.

KSB SE & Co. KGaA Germany holds **58.89%** shares in KSB Pumps Company Limited.

5. RISK FACTORS

5.1 RISK ASSOCIATED WITH THE RIGHT ISSUE

Undersubscription Risk

There is a risk that the right issue may get undersubscribed due to lack of interest from shareholders of the Company. The Right Issue of the Company is being carried out at a price which is less than the current share price in the market and hence there is no major investment risk associated with the Right Issue. The substantial shareholder and directors of the Company have confirmed that they shall subscribe to (or arrange the subscription of) their respective right entitlements, while the balance portion of the Right Issue will be underwritten in accordance with the applicable laws.

5.2 RISK ASSOCIATED WITH ISSUER

Internal Risk Factors

Operational Risk

Operational risk encapsulates the uncertainties and potential hazards that a business encounters while carrying out its daily operations, particularly concerning plant operation. It may stem from internal procedural breakdowns, personnel issues, or system failures.

Factors such as a high turnover rate among skilled staff, disruptions in the company's supply chain, or inadequate planning can significantly contribute to operational risk.

To mitigate operational risk, the company is proactively implementing measures such as staff retention initiatives, which include training programs and competitive benefits, to address the challenges associated with high turnover rates. Additionally, the company is adopting a diversified approach to supply chain planning and implementing robust strategies to counter disruptions, ensuring continuity and stability in its operations.

Procurement Risk

Being a prominent player in the Pump & Valves sector of our country, we recognize the imperative to understand the inherent procurement risks that come with our business operations. Given that a significant portion of our procurements relies on imports, we are subject to various variables such as exchange rate fluctuations, duties structure, and import regulations. Currency exchange rate volatility can directly affect the costs of raw materials, thus impacting our bottom line.

In our unwavering commitment to transparency, we acknowledge and actively mitigate these risks through proactive procurement strategies, supplier diversification efforts, and vigilant monitoring of market dynamics. By staying attuned to these factors and implementing effective risk management

measures, we ensure the resilience and stability of our procurement processes, thereby safeguarding our operations and delivering value to our stakeholders.

Credit Risk

Credit risk represents the risk of financial loss being caused if counter party fails to discharge an obligation. Credit risk arises from deposits with banks and other receivables. Credit risk of the Company arises from cash and cash equivalents and deposits with banks and financial institutions, as well as credit exposures to customers, including outstanding receivables and committed transactions. The management assesses the credit quality of the customers, considering their financial position, past experience and other factors. Individual risk limits are set based on internal or external ratings in accordance with limits set by the board. The utilization of credit limits is regularly monitored and major sales to retail customers are settled in cash. For banks and financial institutions, only independently rated parties with a strong credit rating are accepted.

Liquidity Risk

Liquidity risk represents the risk that the Company will encounter difficulties in meeting obligations associated with financial liabilities.

Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash, the availability of funding through an adequate amount of committed credit facilities. Due to the dynamic nature of the Company's businesses, the Company's finance department maintains flexibility in funding by maintaining financial availability under committed credit lines.

Management monitors the forecasts of the Company's cash and cash equivalents on the basis of expected cashflow. This is generally carried out in accordance with practice and limits set by the Company. These limits vary by location to consider the liquidity of the market in which the entity operates. In addition, the Company's liquidity management policy involves projecting cash flows in each quarter and considering the level of liquid assets necessary to meet its liabilities; monitoring statement of financial position liquidity ratios against internal and external regulatory requirements, and maintaining debt financing plans.

Pending Litigation

Details of all material legal proceeding are mentioned under Section 6 of the Offer Document. The management of the Company is confident of a favourable outcome of these proceeding.

Risk of Non-compliance with Regulations of SECP and PSX

In the event of non-compliance with any regulatory requirements of SECP or PSX, the Company may be placed on Defaulter Segment of PSX which may potentially hamper trading in the Company's shares leading up to potential suspension in trading of its shares as well as delisting.

To mitigate the risk of non-compliance with SECP and PSX regulations, the Company has engaged legal counsel and financial advisors for ongoing guidance, continuously monitoring regulatory changes and maintaining open communication with regulatory bodies. The aim of such measures is to ensure adherence to regulatory requirements in timely manner.

External Risk Factors

Business Risk

Business risk is exposure of the Company to factors which could lower its profits or even impact its going concern status. Some of these factors include:

- Increase in the prices of raw material, & pump parts.
- Volatility of exchange rates
- Increasing energy costs
- Imposition and increase in rates of custom duties, & regulatory duties on import of products related to Pump manufacturing
- Increase in transportation costs due to fuel prices and axle load conditions
- Decrease in customer demand due to economic slowdown, rising Inflation, etc.

Market Risk

Market risk encompasses currency risk, other price risk, and interest rate risk. Currency risk pertains to fluctuations in foreign exchange rates impacting the fair value or future cash flows of financial instruments. Given the Company's international operations, it faces exposure to currency risk, particularly concerning the US dollar and the Euro. This risk arises from anticipated commercial transactions and existing assets and liabilities denominated in foreign currencies.

Other price risk involves the potential fluctuation of financial instrument values or future cash flows due to market price changes, excluding those stemming from interest rate or currency variations. While the Company does not face equity price risk due to the absence of investments in equity securities, its diverse supplier portfolio shields it from commodity price risk.

Interest rate risk pertains to fluctuations in market interest rates affecting the fair value or future cash flows of financial instruments. Although the Company lacks significant long-term interest-bearing assets, it is exposed to interest rate risk through both long-term and short-term borrowings. Notably, borrowings acquired at variable rates expose the Company to cash flow fluctuations associated with interest rate variations

Interest Rate Risk

Interest rate risk poses a significant concern, potentially affecting the value of financial instruments due to fluctuations in market interest rates. Notably, the Company's borrowing arrangements are subject to variable interest rates, thereby exposing it to this risk. Elevated interest rates can escalate borrowing expenses, amplifying the cost of financing operations for the Company. Consequently, this may trigger a downturn in business expenditure, hinder economic expansion, and erode profitability. Moreover, heightened borrowing costs can deter new business ventures, impeding investment activities as the expense of financing fresh projects escalates. Every 1% change in policy rate will have an impact of PKR 18.6 Mn on the annualized finance cost.

Foreign Exchange Risk

Foreign currency risk pertains to the potential fluctuation in the fair value or future cash flows of a financial instrument due to changes in foreign exchange rates. The Company's exposure to this risk predominantly stems from anticipated economic transactions or outstanding receivables and payables denominated in foreign currencies. Particularly, the Company faces foreign currency risk primarily concerning the USD and EUR. Mitigation of this risk involves vigilant monitoring of exchange rates and adjustments to net exposure. Currently, the Company is exposed to foreign currency risk, notably

through Letters of Credit (L/Cs) utilized for the import of raw materials and spares. A 10% fluctuation in foreign exchange rates results in an approximate 7% impact on the company's costs.

Natural Disaster Risk

Destruction of manufactured facility due to natural disaster. The Company has comprehensive insurance cover in case of any catastrophic event. Further, the Company has taken into account every possible aspect of safety measures during construction and erection of building and plant. Company has well established disaster recovery plan and data backup facility to cope-up uncertain events. The Company has adequate firefighting arrangements at the factory premises.

Profitability

The Company's after-tax profit for FY 2023 amounted to Rs. 843 thousand, compared to Rs. 43 million in FY 2022. This decrease was primarily attributed to sharp price pressures, supply disruptions and higher interest rates. Going forward, company expected to accelerate its sales growth momentum and operating cashflows ably supported by additional working capital injection. Moreover, expectation of lower interest rates going forward shall supplement the bottom line as well.

NOTE: IT IS STATED THAT TO THE BEST OF OUR KNOWLEDGE AND BELIEF, ALL MATERIAL RISK FACTORS HAVE BEEN DISCLOSED AND THAT NOTHING HAS BEEN CONCEALED IN THIS RESPECT.

(This space has been left blank intentionally)

6. LEGAL PROCEEDINGS:

6.1 OUTSTANDING LEGAL PROCEEDINGS OF THE COMPANY

These are routine litigations incidental to the business operations, to which the Company is a party that may have a material impact on the Company. Moreover, these litigation matters have already been disclosed in the audited financial statements for the year ended December 31, 2023 and may be referred to for further details.

S. No.	<u>Audited Financial Statement FY 2023 Note #</u>	<u>Case No.</u>	<u>Case Title</u>	<u>Institution</u>	<u>Date Issuing Authority</u>	<u>Tax Period</u>	<u>Order Amount / Financial Impact (PKR/ Million)</u>	<u>Current Status</u>	<u>Comments of Management/ Legal Advisor</u>
1	13.1.2	N/A	N/A	Federal Board Of Revenue (IRS)	14-May-19	2017	35.6	DCIR raised demand 35.6 million against order 161 and we filled appeal before CIR(A) in which all demand deleted.	The management and the taxation expert of the Company believe that there are meritorious grounds available to defend the foregoing demand. Consequently, no provision has been recorded in these Financial statements.
2	13.1.3	N/A	N/A	Federal Board Of Revenue (IRS)	13-Aug-21	2015	13.9	DCIR raised demand Rs: 13.9 Mio against order 161/205. We filled appeal before CIR(A) in which CIR partly granted relief and remand back Ground No.9 BTL payments. We submitted supporting documents before DCIR against remand back order and DCIR deleted demand and	The management and the taxation expert of the Company believe that there are meritorious grounds available to defend the foregoing demand. Consequently, no provision has been recorded in these Financial statements.

								issued order in our favor.	
		N/A	N/A	Federal Board Of Revenue (IRS)	27-Nov-20	2016	1.8	DCIR raised demand 3.1 million against order 161 and we filled appeal before CIR(A) in which net demand Rs.1.8 million is payable.	The management and the taxation expert of the Company believes that there is meritorious ground available to defend the foregoing demand. Consequently, no provision has been recorded in these Financial statements.
3	13.1.4	N/A	N/A	Federal Board Of Revenue (IRS)	13-Aug-21	2015	352.8	ADCIR raised demand 352,804,494 against order 122(5A) and we filled appeal before CIR(A) in which all demand deleted and FBR filed appeal before ATIR.	The management and the taxation expert of the Company believes that there is meritorious ground available to defend the foregoing demand. Consequently, no provision has been recorded in these financial statements.
4	13.1.5	N/A	N/A	Federal Board Of Revenue (IRS)	15-Apr-22	2018	69.18	DCIR raised demand 69 million during WH audit U/S 161 and we filed appeal before CIR(A) and he remanded back to DCIR. Case is pending before DCIR.	The management and the taxation expert of the Company believes that there is meritorious ground available to defend the foregoing demand. Consequently, no provision has been recorded in these financial statements.

6.2 Any outstanding legal proceeding other than the normal course of business involving the issuer, its sponsors, substantial shareholders, directors and associated companies, over which the Issuer has control, that could have material impact on the issuer.

None

6.3 Action taken by the securities exchange against the issuer or associated listed companies of the issuer during the last three years due to noncompliance of its regulations.

SECP imposed penalty amounting to Rupees 25,000/- on 22.02.2023 due to non-compliance of section 166 of the Companies Act 2017. All rectification measures were taken by the company immediately.

7. SIGNATORIES TO THE OFFER DOCUMENTⁱ



Mr. Imran Ghani
Chief Executive Officer
KSB Pumps Company Limited



Mr. Shahid Mahmood
Director
KSB Pumps Company Limited

ⁱ THE SIGNATORIES ARE AUTHORISED BY THE BOARD OF DIRECTORS TO SIGN THE FINAL OFFER DOCUMENT ON THEIR BEHALF

سرمایہ کاروں کو مشورہ

ایکوٹی سیکورٹیز اور ایکویٹی سے متعلق سیکورٹیز میں کسی حد تک خطرہ شامل ہوتا ہے۔ سرمایہ کاروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس رائٹس شیئر آفر ڈاکومینٹ کو (جس کا آگے "آفر ڈاکومینٹ" کی حیثیت سے حوالہ دیا گیا ہے) اور خطرے کے عوامل کو احتیاط کے ساتھ پڑھ لیں اور اس پیشکش میں سرمایہ کاری کا فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے مالی حالات اور خطرہ لینے کی اہلیت کو جانچ لیں۔

رائٹس کے استحقاق کا لیٹر پی ایس ایکس میں قابل خرید و فروخت ہے، اس سے پیدا ہونے والے خطرات اور فوائد خالصتاً سرمایہ کاروں کی ذمہ داری ہوگی۔

یہ دستاویز، کے ایس بی پیپس کمپنی لمیٹڈ کی طرف سے 17,700,000 نئے عام شیئرز پر مشتمل 1,947,000,000 پاکستانی روپے کے رائٹس ایشو کے سلسلے میں کمپنی کے شیئر ہولڈرز اور عام لوگوں کو اطلاع دینے کے مقصد کے لیے جاری کی جا رہی ہے۔ اس دستاویز کی ایک کاپی سیکورٹیز ایکسچینج میں رجسٹرڈ کرادی گئی ہے

یہ پیشکش 15 اکتوبر، 2024 (سبسکریپشن کی رقم کی ادائیگی کے آخری دن سے 60 دن) تک کارآمد ہے۔



کے ایس بی پیپس کمپنی لمیٹڈ

رائٹس شیئر -- آفر ڈاکومینٹ

تاریخ اور قیام کا مقام: 18 جولائی، 1959، لاہور، انکارپوریشن نمبر: 0001024، صدر دفتر: 16/2، سر آغا خان روڈ، لاہور، فون: +92(42)111-572-786

ویب سائٹ: <https://www.ksb.com/en-pk/>، رابطہ کے لیے فرد: جناب فیصل امان خان، فون: +92(42)111-572-786

ای میل: faisal.aman@ksb.com.pk

اجراء کا حجم: یہ اجراء 17,700,000 رائٹس شیئرز پر مشتمل ہے (یعنی کے ایس بی پیپس کمپنی لمیٹڈ کے موجودہ ادا شدہ سرمائے کا تخمیناً %134.0909) ہر ایک -/110 پاکستانی روپے کی آفر پرائس پر -/10 پاکستانی روپے کی فیس ویلیو کا حامل (بشمول -/100 پاکستانی روپے فی شیئر پر بیم) رائٹس ایشو سے جمع کی جانے والی کل رقم 1,947,000,000 پاکستانی روپے ہے۔

آفر ڈاکومینٹ کو عوام کے تبصرہ کے لیے پی ایس ایکس پر ڈالنے کی تاریخ:	N/A (عوام کی رائے حاصل نہیں کی جا رہی)
حتمی آفر لیٹر کی تاریخ:	25 جون، 2024
کھاتا بند ہونے کی تاریخ:	04 جولائی، 2024 سے 10 جولائی، 2024 تک
سبسکریپشن کی رقم ادا کرنے کی تاریخیں:	18 جولائی، 2024 سے 08 اگست، 2024 تک
لیٹر آف رائٹس کی خرید و فروخت کی تاریخیں	18 جولائی، 2024 سے 16 اگست، 2024 تک

رابطہ کے لیے متعلقہ افراد کی تفصیلات:

ای میل آئی ڈی	دفتر کا پتہ	رابطے کا نمبر	عہدہ	فرد کا نام	اجراء کنندہ کا مجاز افسر
faisal.aman@ksb.com.pk	16/2 سر آغا خان روڈ، لاہور	+92(42) 111-572-786	کمپنی سیکریٹری	جناب فیصل امان خان	اجراء کے انڈر رائٹرز
taha.siddiqui@arifhabilttd.com	دوسری منزل، عارف حبیب سینٹر، 23، ایم ٹی خان روڈ، کراچی	+92 (21) 111-245-111	چیف فنانشل آفیسر	جناب طلحہ صدیقی	عارف حبیب لمیٹڈ
aziz@dawoodequities.com	17th فلور، صائمہ ٹریڈ ٹاور 'A' آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی	+ 92 (21) 32275200	چیف ایگزیکٹو آفیسر	جناب عبدالعزیز حبیب	داؤد ایکویٹیز لمیٹڈ
Mairaj.hassan@habibmetro.com	اسپینسرز بلڈنگ، ٹرانزیکشنز بینکنگ، میزناؤن فلور، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی	+92 (21) 32644571	ٹیم لیڈ سبلز (ساؤتھ) ٹرانزیکشنز بینکنگ	سید معراج حسن	حبیب میٹروپولیٹن بینک لمیٹڈ

اس آفر ڈاکیومنٹ کو <https://www.ksb.com/en-pk/investor-relations/investor-information> اور <https://www.psx.com.pk> سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

چیف ایگزیکٹو آفیسر اور چیف فنانشل آفیسر کی طرف سے اقرار نامہ

A760496

100
Rupees




UNDERTAKING BY CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF FINANCIAL OFFICER

100
Rupees


"WE, IMRAN GHANI, THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND IMRAN AHMED, CHIEF FINANCIAL OFFICER OF KSB PUMPS COMPANY LIMITED CERTIFY THAT;

- (i) THE OFFER DOCUMENT CONTAINS ALL INFORMATION WITH REGARD TO THE ISSUER AND THE ISSUE, WHICH IS MATERIAL IN THE CONTEXT OF THE ISSUE AND NOTHING HAS BEEN CONCEALED IN THIS RESPECT;
- (ii) THE INFORMATION CONTAINED IN THE OFFER DOCUMENT IS TRUE AND CORRECT TO THE BEST OF THEIR KNOWLEDGE AND BELIEF;
- (iii) THE OPINIONS AND INTENTIONS EXPRESSED THEREIN ARE HONESTLY HELD;
- (iv) THERE ARE NO OTHER FACTS, THE OMISSION OF WHICH MAKES THE OFFER DOCUMENT AS A WHOLE OR ANY PART THEREOF MISLEADING; AND
- (v) ALL REQUIREMENTS OF THE COMPANIES ACT, 2017, THE COMPANIES (FURTHER ISSUE OF SHARES) REGULATIONS, 2020, THE CENTRAL DEPOSITORY COMPANY AND THAT OF PSX PERTAINING TO THE RIGHT ISSUE HAVE BEEN FULFILLED."

For and on behalf of KSB PUMPS COMPANY LIMITED



IMRAN GHANI
Chief Executive Officer



IMRAN AHMED
Chief Financial Officer

ATTESTED
ANAMULLAH HUSSAIN
Oath Commissioner

کمپنی کے سیکریٹری، کمپنی کے افسر جنہیں کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے اس ضمن میں اختیار دیا گیا ہے، کا اقرار نامہ

AH093738




Undertaking by the Company Secretary an officer of the Company authorized by the Board of directors of the company in this behalf


Dated: 14/06/2024

I, THE COMPANY SECRETARY, AS AUTHORIZED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY HEREBY CONFIRM THAT:

- I. ALL MATERIAL INFORMATION AS REQUIRED UNDER THE COMPANIES ACT, 2017, THE SECURITIES ACT, 2015, COMPANIES (FURTHER ISSUE OF SHARES) REGULATIONS, 2020, THE LISTING OF COMPANIES AND SECURITIES REGULATIONS OF THE PAKISTAN STOCK EXCHANGE LIMITED HAS BEEN DISCLOSED IN THIS OFFER DOCUMENT AND THAT WHATEVER IS STATED IN OFFER DOCUMENT AND IN THE SUPPORTING DOCUMENTS IS TRUE AND CORRECT TO THE BEST OF OUR KNOWLEDGE AND BELIEF AND THAT NOTHING HAS BEEN CONCEALED.
- II. WE UNDERTAKE THAT ALL MATERIAL INFORMATION, INCLUDING RISKS THAT WOULD ENABLE THE INVESTOR TO MAKE AN INFORMED DECISION, HAS BEEN DISCLOSED IN THE OFFER DOCUMENT.
- III. RIGHT ISSUE IS THE DISCRETION OF BOARD OF THE ISSUER AND IT NEITHER REQUIRE APPROVAL OF THE COMMISSION NOR THE SECURITIES EXCHANGE.
- IV. THE DRAFT OFFER DOCUMENT WAS PLACED ON THE WEBSITE OF THE SECURITIES EXCHANGE AND THE ISSUER, ON 30TH APRIL 2024 (I.E. WITHIN 45 DAYS OF THE DATE OF ANNOUNCEMENT BY THE BOARD.
- V. COMMENTS FROM SECURITIES EXCHANGE AND THE SECP WERE RECEIVED ON 5TH JUNE, 2024
- VI. THE BOARD HAS ENSURED THAT DRAFT OFFER DOCUMENT IS UPDATED IN LIGHT OF THE SECURITIES EXCHANGE AND SECP COMMENTS.
- VII. THE BOARD HAS DISCLOSED ON PSX'S AND COMPANY'S WEBSITE, ALL THE COMMENTS RECEIVED ALONG WITH THE EXPLANATIONS AS TO HOW THEY ARE ADDRESSED.
- VIII. THE FINAL OFFER DOCUMENT WAS SUBMITTED TO THE COMMISSION AND PLACED ON SECURITIES EXCHANGE WEBSITE ON June 25 2024 ALONG WITH THE BOOK CLOSURE DATES AND RELEVANT RIGHT ISSUANCE TIMELINES. (I.E. WITHIN 20 WORKING DAYS FROM THE DATE OF RECEIPT OF COMMENTS OF PSX & SECP).
- IX. THE STATUTORY AUDITOR M/s. A.F. FERGUSON & CO. OF THE ISSUER SHALL SUBMIT HALF YEARLY REPORT TO THE ISSUER REGARDING UTILIZATION OF PROCEEDS IN THE MANNER REFERRED TO IN THE FINAL OFFER DOCUMENT. THE ISSUER WILL INCLUDE THE REPORT OF THE STATUTORY AUDITOR, ALONG WITH ITS COMMENTS THEREON, IF ANY, IN ITS HALF YEARLY AND ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS.

For and on behalf of KSB PUMPS COMPANY LIMITED


Faisal Aman Khan
Company Secretary


ATTESTED
M. Yousaf Shahid
Advocate High Court
Oath Commissioner

دستبرداری:

i. کمپنیز ایکٹ، 2017 اور کمپنیز (شیرز کا مزید اجراء) ریگولیشنز، 2020 کی رو سے اس دستاویز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج/پاکستان سٹاک ایکسچینج لمیٹڈ اور سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) سے منظوری کی ضرورت نہیں ہے۔

ii. سیکورٹی ایکسچینج اور ایس ای سی پی کی دستبرداری مندرجہ ذیل ہیں:

الف. کسی کو کسی بھی وجہ سے اس دستاویز پر انحصار سے ہونے والے کسی نقصان سے، بشمول مگر صرف اسی حد تک محدود نہیں، اس دستاویز کے غیر درست، نامکمل اور/یا اس دستاویز کی بنیاد پر کیے جانے فیصلوں اور/یا اقدامات سے،

ب. کمپنی کے مالی استحکام اور اس میں بیان کردہ کسی سکیم/منصوبے، یا اس بارے میں کسی بیان یا کمپنی کی طرف سے پیشکش کی اس دستاویز میں ظاہر کردہ خیالات کے صحیح ہونے کے بارے میں کسی ذمہ داری سے۔

ج. اس اجراء کے معیار کے ضمن میں کسی ذمہ داری سے۔

iii. وضاحت کی جاتی ہے کہ پیشکش کی اس دستاویز میں دی گئی معلومات کو ایس ای سی پی اور سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کی طرف سے کسی مخصوص معاملے کے بارے میں مشورہ نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ کسی مخصوص مشورے کا نعم البدل سمجھنا چاہیے۔

(اس جگہ کو جان بوجھ کر خالی چھوڑ دیا گیا ہے)

فنی اصطلاحات کی تشریح

سیکورٹیز ایکٹ، 2015	ACT
سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ	CDC
سنٹرل ڈیپازٹری سسٹم	CDS
کمپنیز ایکٹ، 2017	Companies Act
انویسٹمنٹ سروسز	IAS
لیٹر آف رائٹس	LoR
ملین	Mn
نیشنل آئیڈینٹیٹی کارڈ فار اوورسیز پاکستانی	NICOP
پاکستانی روپیہ (روپے)	PKR or Rs.
پاکستان سٹاک ایکسچینج لمیٹڈ	PSX/Securities Exchange
یونائیٹڈ سٹیٹس ڈالر	USD

(اس جگہ کو جان بوجھ کر خالی چھوڑ دیا گیا ہے)

تشریحات

اپلیکیشن منی	موجودہ شیئرز ہولڈر کی طرف سے قابل ادائیگی وہ کل رقم جو مقدس کے جانے والے حصص کی قیمت کے برابر ہے۔
اجراء کا بینکر	اس رائٹ ایٹو میں حبیب میٹروپولیٹن بینک کو مقرر کیا گیا ہے، یا ایٹو کے بارے میں بینکر کی حیثیت سے کوئی دوسرا بینک جس میں اجراء کنندہ کی طرف سے اجراء کی رقم رکھنے کے لیے اکاؤنٹ کھولا اور مینٹین کیا جائے۔
کھاتا بند ہونے کی تاریخیں	کھاتا 04 جولائی، 2024 سے 10 جولائی، 2024 تک بند رہے گا (بشمول دونوں دن)
کمپنی	کے ایس بی پمپس کمپنی لمیٹڈ ("the "Company" یا "KSBP" یا "the Issuer")
کمیشن	سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP")
اجراء	17,700,000 رائٹ شیئرز کا اجراء جو کمپنی کے کل ادا شدہ سرمائے کے اندازاً 134.0909% کی نمائندگی کرتے ہیں
اجرائی قیمت	وہ قیمت جس پر کمپنی کے رائٹ شیئرز موجودہ شیئرز ہولڈرز کو جاری کیے جاتے ہیں (-110/ پاکستانی روپے فی شیئر)
عام شیئرز	-10/ پاکستانی روپے فی کی فیس و بلیو کے حامل کے ایس بی پمپس کمپنی لمیٹڈ کے عام حصص
ریگولیشنز	کمپنیز (شیئرز کا مزید اجراء) ریگولیشنز، 2020 https://www.secp.gov.pk/document/the-companies-further-issue-of-shares-regulations-2020-updated-march-4-2024/?wpdmdl=51188&refresh=663b4dc3873b51715162563
رائٹ ایٹو	کمپنی کی طرف سے اپنے اراکین کو پیش کردہ حصص جو ان کا پاس پہلے سے موجود حصص کے تناسب سے پیش کیے جا رہے ہیں۔
اسپانسر	وہ فرد جس نے اجراء کرنے والی کمپنی میں ابتدائی سرمایہ لگایا ہو یا جس کے پاس اجراء کرنے والی کمپنی کے بورڈ پر بالواسطہ یا بلاواسطہ ڈائریکٹرز کی اکثریت کے تقرر کا حق ہو؛ وہ شخص جو مذکورہ بالا فرد کی جگہ لے؛ اور وہ فرد یا فرد کا گروپ جس کے پاس بلاواسطہ یا بالواسطہ اجراء کرنے والی کمپنی کا کنٹرول ہو۔

فہرست مندرجات

9	_____	رائٹ ایشو کے اہم نکات	1
9	_____	1.1 رائٹ ایشو کی مختصر شرائط	
10	_____	1.2 اجراء کا اہم مقصد اور فنڈنگ کے انتظامات	
12	_____	1.3 رائٹ ایشو سے پیدا ہونے والے مالی اثرات	
13	_____	1.4 اجراء کے کل اخراجات	
13	_____	1.5 انڈر رائٹرز کی تفصیلات	
13	_____	1.6 بڑے شیئر ہولڈرز/ڈائریکٹرز کی طرف سے وعدے	
13	_____	1.7 فرکشل شیئرز	
14	_____	1.8 اہم تاریخیں	
15	_____	2 سبسکریپشن کی رقم کی ادائیگی کا طریقہ کار	2
16	_____	3 کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اور اسپانسرز کے پروفائلز	3
16	_____	3.1 کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا پروفائل	
18	_____	3.2 ڈائریکٹروں کی دوسری کمپنیوں میں ڈائریکٹر شپ	
19	_____	3.3 ہولڈنگ کمپنی کا پروفائل	
19	_____	4 اجراء کنندہ کی تفصیلات	4
19	_____	4.1 پچھلے تین سال کے دوران اجراء کنندہ کے نمایاں مالی نکات	
19	_____	4.2 مربوط مالی حسابات کے پچھلے ایک سال کے نمایاں مالی نکات	
19	_____	4.3 پچھلے پانچ سالوں میں سرمائے کے اجراء کی تفصیلات	
20	_____	4.4 پچھلے چھ ماہ کے دوران اجراء کنندہ کے شیئرز کی اوسط مارکیٹ پرائس	
20	_____	4.5 شیئر کیپٹل اور متعلقہ معاملات	
21	_____	5 خطرے کے عوامل	5
21	_____	5.1 رائٹ ایشو سے منسلک خطرہ	
21	_____	5.2 اجراء کنندہ سے منسلک خطرہ	
25	_____	6 قانونی کارروائیاں	6
25	_____	6.1 کمپنی کی زیر التوا قانونی کارروائیاں	
26	_____	6.2 معمول کے کاروباری طریقے کے علاوہ کوئی زیر التوا قانونی کارروائی، جس میں اجراء کنندہ، اس کے اسپانسرز، بڑے شیئر ہولڈرز، ڈائریکٹرز یا ایسی ایسی ایڈیٹوریاں شامل ہوں جن پر اجراء کنندہ کا کنٹرول ہے، جس کا اجراء کنندہ پر مادی اثر پڑ سکتا ہو	
26	_____	6.3 پچھلے تین سالوں کے دوران سیکورٹیز ایکچینج کی طرف سے اس کے ضابطوں کی عدم تعمیل کی وجہ سے اجراء کنندہ یا اجراء کنندہ کی ایسوسی ایٹڈ لسٹڈ کمپنیوں کے خلاف کی جانے والی کارروائی	
27	_____	7 آفر ڈاکومینٹ کے دستخط کنندگان	7

1. رائٹ ایشو کے اہم نکات

1.1 رائٹ ایشو کی مختصر شرائط

(a) اجراء کی صراحت

(b) مجوزہ اجراء کا حجم

(c) شیئر کی فیس ویلیدو

(d) رائٹ ایشو کی قیمت کے تعین کی بنیاد

(e) موجودہ شیئرز سے نئے اجراء کا تناسب کسی قابل اطلاق

شرط کے ساتھ

(f) بورڈ آف ڈائریکٹرز (BoD) کے اجلاس کی تاریخ جس 29 اپریل، 2024

میں رائٹ ایشو کی منظوری دی گئی

(g) بورڈ اجلاس میں شریک ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام

1. ڈاکٹر سوین بومگارٹن، چیئر مین

2. جناب عمران غنی، چیف ایگزیکٹو آفیسر

3. جناب ڈائریکٹر انٹونیس پوٹ، نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر

4. جناب حسن عزیز بلگرامی، نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر

5. محترمہ عائشہ عزیز، انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر

6. جناب آصف ملک، انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر

7. جناب شاہد محمود، انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر

8. جناب عاصم رفیق، Nominee NIT

(h) رائٹ ایشو کے حاصلات کے استعمال کا مختصر مقصد

رائٹ ایشو کا مقصد کمپنی کا منافع بڑھانے کی سوچ کے ساتھ کاروبار موثر طریقے سے چلانے کے لیے کمپنی کی سرمائے کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ منافع بڑھانے اور اس کے نتیجے میں شیئر ہولڈرز کو زیادہ ریٹرن فراہم کے لیے یہ مالی پوزیشن مستحکم کرنے کی خاطر کمپنی کی وسیع تر حکمت عملی سے مطابقت رکھتا ہے۔

رائٹ ایشو کا مقصد:

(i) موجودہ رائٹ ایشو کے ذریعے فنڈز جمع کرنے کے اہم

مقاصد کی تفصیلات

کمپنی کی اپنی کاروباری سرمائے کی ضروریات کو پورا کرنا اور فنڈز کی لاگت کو بچانا۔ ملک کے موجودہ معاشی ماحول میں جس میں شرح سود بہت بڑھ چکی ہے، کمپنی کی کاروباری سرمائے کی ضروریات کو زیادہ تر بینکوں اور مالیاتی اداروں کے قرضوں کے ذریعے پورا کرنا قابل عمل یا محتاط آپشن نہیں ہے، لہذا ایجوٹی کے ذریعے جمع کیے جانے والے فنڈز کو کاروباری سرمائے کے مقاصد کے لیے استعمال کرنا زیادہ محتاط کاروباری اور تزویراتی سوچ ہے جو فنڈز کی لاگتوں کو بڑی حد تک کم کرے گی۔ امید ہے کہ منافع پر اس کا مثبت اثر پڑے گا اور بالآخر شیئر ہولڈرز کے لیے بہتر نتائج نکلیں گے۔

کوئی نہیں

(j) سبسکرپشن کی کم سے کم سطح (MLS)

1.2 اجراء کا بڑا مقصد اور فنڈنگ کے انتظامات

کمپنی، کاروباری سرمائے کی بڑھتی ہوئی ضروریات پورا کرنے اور کاروبار کی سرمائے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے حاصل کردہ قرضوں کی واپسی کے لیے بھی فنڈ جمع کرنا چاہتی ہے۔ حاصلات کو کمپنی کی کاروباری سرمائے کی روزمرہ ضروریات پوری کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا، اس طرح لیکویڈیٹی کی سطحوں کو ٹھیک رکھتے ہوئے بہتر بزنس آپریشنز کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس سے کمپنی مالی ریٹھنز کو بہتر بنانے اور منافع بڑھانے کے قابل ہوگی جو باہم مل کر شیئرز ہولڈرز کے ریٹرنز بڑھانے میں کردار ادا کریں گے۔

ذیل میں رائٹ ایشو کے حاصلات کے استعمال کا بریک اپ دیا گیا ہے۔

اجراء کا مقصد	حاصلات کا استعمال	رائٹ ایشو حاصلات کا استعمال
کاروباری سرمائے کی ضروریات	239,850,000	12.32%
قرض کی ادائیگی	1,707,150,000	87.68%
کل	1,947,000,000	100%

کے ایس بی کی کاروباری سرمائے کی ضروریات رائٹ ایشو کے حاصلات کے ذریعے پوری کی جائیں گی، جو پائیدار کاروباری افزائش کے لیے ناگزیر ہے۔

وہ سرگرمیاں جو ورکنگ کیٹیبل کی درجہ بندی میں آتی ہیں

کاروباری سرمائے کے مقاصد کے لیے اہم سرگرمیوں میں مندرجہ ذیل شامل ہیں (مگر اس حد تک محدود نہیں):

- اپنے payables کا انتظام کرنا
- انونٹریز کی زیادہ سے زیادہ سطح برقرار رکھنا

کاروبار کی تاریخی ورکنگ کیٹیبل کی ضروریات درج ذیل ہیں:

2021	2022	2023	کاروباری سرمائے کی ضروریات
1,564,143	1,322,924	1,542,693	انونٹری (سٹاک + سپیرز) (A)
2,157,015	2,295,584	2,271,998	تجارتی قرضے اور معاہداتی اثاثے (B)
1,893,607	1,965,687	2,388,102	ٹریڈ اور دوسرے پے ایبلز اور معاہداتی ذمہ داریاں (C)
1,827,551	1,652,821	1,426,589	کل (A+B+C)

ورکنگ کپیل فنانسنگ جسے واپس ادا کرنے کی تجویز ہے، کی تفصیلات

اجراء کا مقصد	منظور شدہ فیسلٹیز PKR ملین میں	استعمال کردہ حد OD ملین پاکستانی روپے میں
بینک الفلاح لمیٹڈ	250.00	135.51
حبیب بینک لمیٹڈ	1,000.00	163.97
الائیڈ بینک لمیٹڈ	800.00	651.44
میزان بینک لمیٹڈ	500.00	270.5
دی بینک آف پنجاب	500.00	489.73
کل	3,050.00	1,707.15

ورکنگ کپیل فیسلیٹی جنھیں واپس ادا کرنے کی تجویز ہے، کمپنی کے موجودہ اور مستقبل کے کرنٹ اثاثوں کے عوض محفوظ ہیں۔ ملک کے موجودہ معاشی ماحول میں جس میں شرح سود بہت بڑھ چکی ہے، کمپنی کی کاروباری سرمائے کی ضروریات کو زیادہ تر بینکوں اور مالیاتی اداروں کے قرضوں کے ذریعے پورا کرنا قابل عمل یا محتاط آپشن نہیں ہے، لہذا ایکویٹی کے ذریعے جمع کیے جانے والے فنڈز کو کاروباری سرمائے کے مقاصد کے لیے استعمال کرنا زیادہ محتاط کاروباری اور ترقیاتی سوچ ہے جو فنانس کی لاگوں کو بڑی حد تک کم کرے گی۔ امید ہے کہ منافع پر اس کا مثبت اثر پڑے گا اور بالآخر شیئر ہولڈرز کے لیے بہتر نتائج نکلیں گے۔ قرضے کی واپس ادائیگی کا مالی اثر بہت زیادہ ہے کیونکہ اس سے سالانہ تقریباً 372 ملین پاکستانی روپے کی مالی لاگت کی بچت ہوگی۔

کاروباری سرمائے کی ضرورت کے تخمینے کی بنیاد اور متعلقہ مفروضے

کاروباری سرمائے کی ضروریات کے تخمینے کی بنیاد تاریخی اور متوقع ڈیٹا کے مجموعہ پر ہے، جس میں زیادہ مہنگائی اور پاکستانی روپے کی قدر میں کمی کے پس منظر میں input لاگت میں خاطر خواہ اضافہ شامل ہے۔ کمپنی نے تاریخی طور پر انویسٹری کی بلند سطحیں برقرار رکھیں؛ تاہم، شرح تبادلہ میں کمی اور مہنگائی کے نتیجے میں زیادہ پیداوری لاگت کے باعث سود کی بلند شرحوں کے ماحول میں کاروباری سرمائے کی ضرورت میں بھی اضافہ ہوا۔ نتیجے کے طور پر کمپنی نے اپنی انویسٹری کی سطح کم کر دی اور کاروباری سرمائے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے سپلائرز کے ساتھ ادائیگی کی شرائط میں توسیع کی۔ آگے دیکھتے ہوئے، کمپنی ایک مضبوط آرڈر باؤنڈ لائن اور کسی امکانی درآمدی پابندیوں کے خلاف رکاوٹ کی ضرورت کے ساتھ اپنی انویسٹری سطحوں کو بڑھانے کے منصوبے رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ کمپنی کا مقصد سپلائرز کے ساتھ تعلقات کو مستحکم بنانا اور لمبی مدت میں بلا تعطل سپلائی چین کو یقینی بنانے کے لیے ادائیگی کی بہتر شرائط پیش کرنا ہے۔ ان عوامل نے اجتماعی طور پر کاروباری سرمائے کی اُن ضروریات میں اضافہ کیا ہے جو کے ایس بی پی کے پرسکون بزنس آپریشنز میں مدد دینے کے لیے ضروری ہیں۔

اضافی کاروباری سرمایہ اکٹھا کرنے کی وجوہات، متعلقہ حقائق اور اعداد و شمار سے اس کی تائید

ورکنگ کپیل، کمپنی کے کاروبار کی افزائش اور اسے پائیدار بنانے اور اس کے ساتھ شیئر ہولڈرز کا منافع زیادہ کرنے کے لیے جمع کیا جا رہا ہے۔ ان پٹ لاگت میں خلیہ اضافے اور اس کے ساتھ کاروباری سرگرمیوں میں سست روی سمیت موجودہ معاشی صورت حال کے باعث مالی سال 2023 میں مجموعی آپریٹنگ سائیکل متاثر ہوا۔ کمپنی اپنی کاروباری ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی داخلی کیش فلوز پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے اور اپنی قلیل المدت ضروریات کے لیے بینکوں پر انحصار کرتی ہے۔ شرح سود کے ناموافق

ماحول کے پیش نظر کمپنی کی کاروباری سرمائے کی ضروریات کو زیادہ تر بینکوں / مالیاتی اداروں کے قرضوں سے پورا کرنا قابل عمل آپشن نہیں ہے۔ کمپنی نے بالآخر انونٹری کی کم سطحوں اور سپلائر کے ساتھ ادائیگی کی توسیع شدہ شرائط کے مجموعہ کے ذریعے جزوی طور پر کاروباری سرمائے کی ضرورت کو پورا کیا۔

چنانچہ، مذکورہ بالا کی روشنی میں ورکنگ کیپٹل مقاصد کے لیے ایکویٹی سے اکٹھے کیے جانے فنڈز کو استعمال کرنا زیادہ محتاط اور ترمیمی سوچ ہے، جو قلیل المدت قرضوں پر انحصار کم کرے گی اور اس کے نتیجے میں فنڈس کی لاگت بھی کم ہوگی۔ رائٹ ایشو، کے ایس بی کو اپنی لیکویڈٹی کو بہتر بنانے اور سرمائے کی لاگت کم کرنے میں مدد دے گا اور اس طرح شیئر ہولڈرز کے منافع میں اضافہ ہوگا۔

پچھلے تین سالوں کے دوران ایام کی تعداد میں کیش کنورشن سائیکل

2021	2022	2023	
234 ³	162 ²	129 ¹	کیش کنورشن سائیکل (دن)

1.3. رائٹ ایشو سے پیدا ہونے والے مالی اثرات

پیشگی پونٹ	قبل از اجراء	بعد از اجراء	اضافہ (کمی) % میں
31 دسمبر، 2023 کے مطابق			
منظور شدہ سرمایہ	150	450	200%
اداشدہ سرمایہ	132	309	134%
خالص اثاثہ / بریک اپ ویلیو فی شیئر	152.60 ⁴	128.20 ⁵	-16%
گیئرنگ ریشو ⁶	N/A	N/A	N/A
پیداواری استعداد	6,000	6,000	N/A
مارکیٹ شیئر**	38%	38%	N/A

نوٹ: مذکورہ بالا اعداد و شمار کی بنیاد 31 دسمبر، 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی حسابات پر ہے۔ ** مارکیٹ ریسرچ اور اسٹڈی کی بنیاد پر تخمینہ۔

1. 2023 کے لیے کیش کنورشن سائیکل کو انونٹری کے دن جمع قابل وصولی دن منفی قابل ادائیگی دن استعمال کرتے ہوئے شمار کیا گیا ہے۔
2. 2022 کے لیے کیش کنورشن سائیکل کو انونٹری کے دن جمع قابل وصولی دن منفی قابل ادائیگی دن استعمال کرتے ہوئے شمار کیا گیا ہے۔
3. 2021 کے لیے کیش کنورشن سائیکل کو انونٹری کے دن جمع قابل وصولی دن منفی قابل ادائیگی دن استعمال کرتے ہوئے شمار کیا گیا ہے۔
4. پری ایشو نیٹ اثاثہ / بریک اپ ویلیو فی حصص کا حساب 31 دسمبر 2023 کو ایکویٹی کو 2,014,373,000 PKR میں حصص کی پری ایشو نمبر 13,200,000 سے تقسیم کر کے لگایا جاتا ہے۔
5. پوسٹ ایشو نیٹ اثاثہ / بریک اپ ویلیو فی حصص کا شمار 3,961,373,000 PKR کی پوسٹ ایشو ایکویٹی کو 30,900,000 حصص کی ایشو کے بعد کی تعداد سے تقسیم کر کے لگایا جاتا ہے۔
6. گیئرنگ ریشو کو شمار نہیں کیا جاسکتا کیونکہ کمپنی کا کوئی لمبی مدت کا قرضہ نہیں ہے۔

1.4. اجراء کے کل اخراجات

PKR 354,000	پی ایس ایکس فیس (اداشدہ سرمائے میں اضافے کا 0.2%)
--	بینکرز کمیشن
0.9%	مشاورت فیس
0.6%	انڈر رائٹنگ کمیشن
1.50%	انڈر رائٹنگ اپ کمیشن
50,000 پاکستانی روپے	اجراء کے بینکرز--جیب سے
2,803,680 پاکستانی روپے	سی ڈی سی---نئے اجراء کی فیس
400,000 پاکستانی روپے	سی ڈی سی--اہل سیکورٹی کے لیے سالانہ فیس (لسٹنگ فیس)
35,400 پاکستانی روپے	ایس ای سی پی ایڈوائزر فیس (پی ایس ایکس کو ادا کردہ فیس کا 10%)
500,000 پاکستانی روپے	آڈیٹر سٹیٹمنٹس کے لیے آڈیٹر فیس
10,000,000 پاکستانی روپے	دیگر اخراجات (بشمول پرنٹنگ کی لاگت، وکلاء اور مشاورت فیس، وغیرہ)

1.5 انڈر رائٹرز کی تفصیلات

انڈر رائٹر کا نام	انڈر رائٹرز رقم پاکستانی روپے میں	اجراء کنندہ کی ایسوسی ایٹڈ کمپنی / ایسوسی ایٹڈ انڈر رائٹنگ
عارف حبیب لمیٹڈ	500,486,140	نہیں ہے
داؤد اکیونٹیر لمیٹڈ	300,000,030	نہیں ہے

1.6 بڑے شیئر ہولڈرز / ڈائریکٹرز کی طرف سے وعدے

نام	حیثیت	موجودہ شیئرز کی تعداد	اُن شیئرز کی تعداد جو سبسکرائب کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے ⁷	وہ مالیت جس کو سبسکرائب کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے پاکستانی روپے میں	اجراء سے قبل شیئر ہولڈنگ کا %	اجراء کے بعد شیئر ہولڈنگ کا %
M/S. KSB SE & Co. KGaA	اہم شیئر ہولڈر	7,772,975	10,422,853	1,146,513,830	58.89%	58.89%

1.7 فریکشنل شیئرز

تمام فریکشنل استحقاق، اگر کوئی ہوئے، مربوط کر دیئے جائیں گے اور ان کے ضمن میں غیر ادا شدہ لیٹرز آف رائٹ پاکستان سٹاک ایکسچینج لمیٹڈ میں فروخت کر دیئے جائیں گے، جن کی فروخت سے خالص حاصلات، realize، ہونے پر ضابطوں کے مطابق مستحق شیئر ہولڈرز میں ان کے استحقاق کے تناسب سے تقسیم / ادا کیے جائیں گے۔

7 یہ مذکورہ ڈائریکٹرز کی طرف سے مقرر کردہ افراد کے ذریعے سبسکرائب کیے جاسکتے ہیں جیسا کہ ریگولیشنز کے تحت اجازت ہے۔

کے ایس بی پمپس کمپنی لمیٹڈ لیٹر آف رائٹس جاری کرنے کا عارضی شیڈول کھاتے کی بندش: 04 جولائی، 2024 سے 10 جولائی، 2024 تک (دونوں دن شامل ہیں)			
نمبر شمار	طریقہ کار	دن	تاریخ
(a)	غیر ادا شدہ رائٹس کو بک انٹری کی شکل میں سی ڈی سی میں کریڈٹ کرنے کی تاریخ	جمعرات	11 جولائی، 2024
(b)	لیٹر آف رائٹ (LOR) کی فزیکل شیئر ہولڈرز کو ترسیل	پیر	15 جولائی، 2024
(c)	پی ایس ایکس کو لیٹر آف رائٹ (LOR) فزیکل شیئر ہولڈرز کو ارسال / کریڈٹ کرنے کی اطلاع	پیر	15 جولائی، 2024
(d)	غیر ادا شدہ رائٹس کی پاکستان سٹاک ایکسچینج لمیٹڈ میں خرید و فروخت کا آغاز	جمعرات	18 جولائی، 2024
(e)	سی ڈی ایس میں درخواستوں کو تقسیم کرنے اور جمع کرنے کی آخری تاریخ	منگل	30 جولائی، 2024
(f)	رائٹس لیٹر کی خرید و فروخت کی آخری تاریخ	جمعرات	8 اگست، 2024
(g)	سی ڈی سی میں شیئرز کی قبولیت اور ادائیگی کی آخری تاریخ اور فزیکل شکل میں -- بچھلی ادائیگی کی تاریخ	جمعہ	16 اگست، 2024
(h)	شیئرز کی الاٹمنٹ اور سی ڈی سی میں شیئرز کا کریڈٹ آف بک انٹری	جمعرات	5 ستمبر، 2024
(i)	فزیکل شیئرز سرٹیفکیٹس ارسال کرنے کی تاریخ	جمعہ	13 ستمبر، 2024

(اس جگہ کو جان بوجھ کر خالی چھوڑ دیا گیا ہے)

2. سبسکریپشن کی رقم ادا کرنے کا طریقہ

- (a) ادائیگی، جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے مذکورہ بالا بینکوں کی کسی بھی مجاز برانچ کے ذریعے " کے ایس بی پمپس کمپنی لمیٹڈ رائٹ شیئر سبسکریپشن " کے حق میں نقد یا کراسڈ چیک یا ڈیمانڈ ڈرافٹ یا پی آر ڈر کے سے 16 اگست، 2024 کو یا اس سے پہلے کی جائے، جس کے ساتھ صحیح طریقے سے پر کی ہوئی رائٹ سبسکریپشن ریکوئسٹ ہو اور اس پر سبسکریپشن (s) کے دستخط ہوں۔
- (b) رائٹ سبسکریپشن ریکوئسٹ <https://www.ksb.com/en-pk/investor-relations/investor-information> سے ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی ہے۔
- (c) غیر رہائشی پاکستانی/غیر ملکی شیئر ہولڈر کی صورت میں پاکستانی روپے میں مساوی رقم کا ڈیمانڈ ڈرافٹ مع رائٹ سبسکریپشن ریکوئسٹ (دونوں کا پتیا) جو صحیح طریقے سے پر کی ہوئی اور سبسکریپشن (s) کی دستخط شدہ ہوں۔ این آئی سی او پی/پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی کے ساتھ ادائیگی کی آخری تاریخ سے پہلے اجراء کنندہ کے رجسٹرڈ دفتر کے پتہ پر کمپنی سیکریٹری، (کے ایس بی پمپس کمپنی لمیٹڈ) کو بھیجا جائے۔
- (d) تمام چیکس اور ڈرافٹس اسی شہر میں واقع بینک کے ہوں جہاں رائٹ سبسکریپشن ریکوئسٹ جمع کرائی گئی ہے۔ چیک realization سے مشروط ہے۔
- (e) اجراء کے بینکرز پوسٹ سے بھیجی جانے والی ایسی رائٹ سبسکریپشن ریکوئسٹ کو قبول نہیں کریں گے جو 16 اگست، 2024 کو کاروباری اوقات بند ہونے کے بعد موصول ہوگی تا وقتیکہ یہ ثبوت موجود ہو کہ انھیں ادائیگی کی آخری تاریخ سے پہلے پوسٹ کیا گیا تھا۔
- (f) اجراء کنندہ کے اجراء کے بینکرز کو 16 اگست، 2024 کو یا اس پہلے اوپر بیان کردہ رقم کی ادائیگی رائٹ آفر کی قبولیت سمجھی جائے گی۔
- (g) اجراء کی کمپنی کے بینکرز کی طرف سے ادائیگی وصول کر لینے کے بعد، ادائیگی کی آخری تاریخ سے 14 کاروباری دنوں کے اندر رائٹ سیکورٹیز متعلقہ سی ڈی ایس اکاؤنٹس میں کریڈٹ کر دی جائیں گی۔ ادا شدہ رائٹ سبسکریپشن ریکوئسٹ کی خرید و فروخت یا ٹرانسفر نہیں ہوگی۔
- (h) انویسٹرز کا ڈونٹ سرومز (IAS) کے اکاؤنٹ ہولڈرز اسب اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے آن لائن ہیمنٹ آپشن: سی ڈی سی نے رائٹ سبسکریپشن کے لیے 1 لنک کے ذریعے آن لائن ہیمنٹ کی سہولت متعارف کرائی ہے۔ اب انویسٹرز اکاؤنٹ ہولڈرز Bill 1 ہیمنٹ آئی ڈی کے عوض جو (سی ڈی ایس) کی طرف سے جزیٹ کی ہوئی) سبسکریپشن ریکوئسٹ کے اوپر دائیں جانب پرنٹ شدہ ہے، 1 Links ممبر بینکوں کے دستیاب تمام آن لائن چینلز کے ذریعے (جیسا کہ انٹرنیٹ بینکنگ، آٹومیٹڈ ٹیلر مشین (ATM) اور موبائل بینکنگ) سبسکریپشن شدہ اپنے متعلقہ رائٹس کی آن لائن ادائیگی کر سکتے ہیں۔

(اس جگہ کو جان بوجھ کر خالی چھوڑ دیا گیا ہے)

3. کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اور اسپانسرز کے پروفائلز

3.1 کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا پروفائل

بورڈ آف ڈائریکٹرز	عہدہ	تقریر کی کھجلی تاریخ
ڈاکٹر سوین بومگارٹن	چیئر مین	25/04/2023
جناب عمران غنی	چیف ایگزیکٹو آفیسر	25/04/2023
جناب ڈائریکٹر انٹونینس پوٹ	نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر	25/04/2023
جناب حسن عزیز بگرا می	انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر	25/04/2023
محترمہ عائشہ عزیز	انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر	25/04/2023
جناب آصف ملک	انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر	25/04/2023
جناب شاہد محمود	انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر	25/04/2023
جناب عاصم رفیق	NIT نامزد	25/04/2023

ڈاکٹر سوین بومگارٹن

چیئر مین

ڈاکٹر سوین بومگارٹن نے 1997 میں KSB Aktiengesellschaft (KSB SE & Co. KGaA) کے ساتھ وابستگی اختیار کی اور فریکٹیل جرمینی میں انجنئر ڈیپارٹمنٹ کے R&D ڈویژن میں اپنا کیریئر شروع کیا۔ ڈاکٹر بومگارٹن کے ایس بی کی گلوبل پراجیکٹ برنس آرگنائزیشن میں مختلف مینجمنٹ پوزیشنوں (وائس پریزیڈنٹ سیلز انرجی اینڈ ڈی سیلینیشن، 2010-2015) پر فائز رہنے کے بعد جنوبی افریقہ میں کے ایس بی پمپس اینڈ والوز (Pty) لمیٹڈ کے مینجنگ ڈائریکٹر اور 2015 سے 2019 تک سب صحران افریقہ کے وائس پریزیڈنٹ بھی رہے۔ وہ 2019 سے متحدہ عرب امارات میں کے ایس بی ڈل ایسٹ FZE کے ایم ڈی ہیں اور ان کے پاس پورے کے ایس بی ریجن ڈل ایسٹ، افریقہ اور روس کے ریجنل ایگزیکٹو آفیسر کا چارج بھی ہے۔

جناب عمران غنی

چیف ایگزیکٹو آفیسر

جناب عمران غنی کے پاس کے ایس بی پمپس کمپنی لمیٹڈ کے مینجنگ ڈائریکٹر اور سی ای او کا عہدہ ہے۔ انھوں نے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، لاہور، پاکستان سے مکینیکل انجینئرنگ میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی اور آئی بی اے۔۔ یونیورسٹی آف پنجاب، لاہور، پاکستان سے ایم بی اے کیا۔ ان کا کشادہ، متنوع اور وسیع پیشہ ورانہ تجربہ 29 سال سے زیادہ کے عرصہ پر محیط ہے، اس دوران انھوں نے اپنے کیریئر میں کثیر الثقافتی ماحول میں مختلف اہم عہدوں پر خدمات انجام دیں۔ جناب غنی انتہائی بڑے مکینیکل سسٹمز پر خصوصی ارتکاز کے ساتھ سیلز، بعد از سیلز اور انجینئرنگ سے متعلق بھرپور تجربے کے حامل ہیں۔ انھوں نے پاکستان اور بیرون ملک متعدد لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ کورسز، ورکشاپس اور سیمینارز میں شرکت کی جس میں Keb Blanchard سے سرٹیفکیشن بھی شامل ہے جس کی وجہ سے وہ Situational لیڈرشپ کے سرٹیفائیڈ ٹرینرز ہیں۔ جناب غنی نے مختلف گلوبل مینوفیکچرنگ کمپنیوں میں کئی مشکل ذمہ داریوں میں تیزی سے پیش رفت کی، جہاں انھوں نے ترویجی صلاحیتوں کی برتری کو کامیابی کے ساتھ استعمال کیا اور متعلقہ مارکیٹس میں فروخت اور منافع کے اہداف حاصل کرنے کے لیے طریقوں پر موثر طریقے سے عمل کیا۔ اس سے قبل وہ مینجنگ ڈائریکٹر برائے پاکستان و افغانستان اور ریجنل برنس

منیجر برائے ڈیل ایسٹ اور افریقہ ریجن رہے۔ ان کی کامیابیاں اور اعلیٰ کارکردگی کی حامل بزنس لیڈرشپ نے مارکیٹ ڈیولپمنٹ، بزنس ٹرن اراؤنڈز اور ایشیا و مشرق وسطیٰ میں مستقبل کے لیڈر تیار کرنے میں نظر آئیں۔ جناب غنی جرمن پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری (GPCCI) کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پر بھی خدمات انجام دے رہے ہیں اور ان کے پاس سینئر نائب صدر کا عہدہ ہے۔

جناب ڈائریکٹر انٹونینس پوٹ
ڈائریکٹر

جناب ڈائریکٹر انٹونینس پوٹ کے ایس بی پاکستان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر ہیں اور اس کی آڈٹ کمیٹی کے بھی ممبر ہیں۔ وہ مختلف اداروں میں فنانس اور اکاؤنٹنگ کی سینئر پوزیشنوں پر خدمات انجام دینے کے بعد 2017 میں گلوبل ایگزیکٹو آفیسر فنانس / اکاؤنٹنگ کی حیثیت سے KSB SE & Co. KGaA سے وابستہ ہوئے۔

جناب حسن عزیز بلگرامی
ڈائریکٹر

جناب حسن اے بلگرامی بائیو ماسٹر (پاکستان) لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں، یہ ایک بائیو ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپ ہے جو فوڈ، فارماسیوٹیکلز اور کاسمیٹک انڈسٹریز میں اطلاق کے لیے قدرتی پراڈکٹس کی پروسسنگ پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ انھوں نے اس سے قبل اپنے کیریئر میں بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ کے بانی پریذیڈنٹ اور سی ای او کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ وہ 2009-2011 کے دوران انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس کے پریذیڈنٹ بھی رہے۔ وہ مہران شوگر ملز، انسٹیٹیوٹ آف مینیکلز پاکستان، کی تعلیمی کمیٹی اور انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کے کوالٹی ایٹورنس بورڈ کے بھی ممبر ہیں۔ جناب بلگرامی کراچی یونیورسٹی سے کامرس گریجویٹ ہیں اور انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان اور CPA آسٹریلیا کے فیلو ممبر بھی ہیں۔

محترمہ عائشہ عزیز
ڈائریکٹر

محترمہ عزیز کے پاس پراجیکٹ اینڈ اسٹریٹجی فنانس، ڈیٹ کیپیٹل مارکیٹس، ایسیٹ مینجمنٹ اور پرائیویٹ ایکویٹی میں 28 سال کا تجربہ ہے۔ مارکیٹ شراکت داروں اور سہولت کاروں کے ساتھ ان کا مضبوط تعلق ہے اور وہ ضابطوں اور مارکیٹ حرکیات کا وسیع ادراک رکھتی ہیں۔

جناب آصف ملک
ڈائریکٹر

ایڈوانس مینجمنٹ اسٹڈیز کے ساتھ مکینیکل انجینئر اور 30 سال سے زیادہ کا پیشہ ورانہ سفر جو مینوفیکچرنگ، سیلز، مارکیٹنگ، پائیداری، انسانی وسائل اور بزنس مینجمنٹ سمیت متنوع شعبوں پر محیط ہے۔ ان کے کیریئر میں مشکل پیٹروکیمیکل فیسلٹیز، پیچیدہ ٹریڈنگ اینڈ ڈسٹری بیوشن نیٹ ورکس اور اینگریو کیمیکلز، ICI/AkzoNobel، میڈ اس سیفٹی انکارپوریشن، اور یو ایس ایپریل اینڈ ٹیکسٹائلز جیسے متنوع ادارے شامل ہیں۔ جناب ملک INSEAD بزنس سکول کے سابق طالب علم ہیں اور انھیں باوقار آکسفورڈ یونیورسٹی کے ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ پروگرام میں شرکت کا اعزاز حاصل ہے۔ ان میں مثبت تبدیلی لانے، بزنس ٹرانسفارمیشن اور منافع کو مقصد کے ساتھ یکجا کرنے کا جذبہ ہے، وہ تنوع اور ہمہ گیری کو اہمیت دیتے ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ متنوع اور باختیار ٹیمیں جدت کو آگے بڑھاتی ہیں جس سے بالآخر کاروباری کامیابی کی راہ ہموار ہوتی ہے۔

جناب شاہد محمود
ڈائریکٹر

جناب شاہد محمود ہیوی پراسیس انڈسٹری اور پاور پلانٹس میں سینئر عہدوں پر کام کر چکے ہیں۔ وہ مکینیکل اینڈ میرین انجنیئر ہیں اور ان کے پاس پاکستان انجنیئرنگ کونسل کی طرف سے "پروفیشنل انجنیئر" کا ٹائٹل ہے۔ ماضی قریب میں وہ پاور پراجیکٹس، ہیوی پراسیس پلانٹس، آپریشنز اینڈ مینٹی نینس اور ٹیم ڈیولپمنٹ کے لیے انڈیپنڈنٹ کنسلٹنٹ کی حیثیت سے کام کرتے رہے ہیں، اور تاشی کی بین الاقوامی عدالتوں میں تاشی کے ٹیکنیکل ایکسپٹ کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کے پاس Heriot Watt یونیورسٹی (برطانیہ) سے ایم بی اے اور یونیورسٹی آف یارک (برطانیہ) سے مینجمنٹ سائنسز میں PGD کی ڈگری ہے۔ وہ مارچ 2023 سے GENCO ہولڈنگ کمپنی لمیٹڈ کے مینجنگ ڈائریکٹر اور سی ای او ہیں۔

جناب عاصم رفیق
ڈائریکٹر

جناب عاصم رفیق انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (ICAP) کے فیلو ممبر ہیں۔ ان کے پاس اکاؤنٹنگ اینڈ آڈٹس، حکمت عملی اور مالی منصوبہ بندی، ٹیکسیشن، سافٹ ویئر ERP ڈیولپمنٹ اینڈ ایمپلیمینٹیشن، اور نجی و سرکاری شعبے کے ممتاز اداروں میں کارپوریٹ افیئرز اینڈ ریگولیشنز ڈیپارٹمنٹ میں 25 سال سے زیادہ کا تجربہ ہے۔ وہ ایک دہائی سے زیادہ عرصہ تک متنوع لسٹڈ کمپنیوں میں ڈائریکٹر (انڈیپنڈنٹ/نامزد) رہے ہیں۔ انھوں نے آئی سی اے پی سے اپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس مکمل کی، اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس (PwC Pakistan) میں تربیت حاصل کی، انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ان انگریڈ اینڈ ویلز سے انٹرنیشنل فنانشل رپورٹنگ سٹینڈرڈز (IFRS) میں سرٹیفیکیشن لی اور انسٹیٹیوٹ آف انٹرنل آڈیٹرز، USA سے انٹرنل آڈٹ میں سرٹیفیکیشن حاصل کی۔ وہ مختلف قومی اور بین الاقوامی سیمینارز اور کانفرنسوں میں شرکت کر چکے ہیں۔ وہ آئی سی اے پی سے سرٹیفائیڈ ڈائریکٹر ہیں۔

3.2 ڈائریکٹرز کی دیگر کمپنیوں میں ڈائریکٹر شپ

S. No.	Name	Designation	Directorship in Other Companies	Name of other Companies with Current Directorship
1	Dr. Sven Baumgarten	Chairman	NIL	NIL
2	Mr. Imran Ghani	Chief Executive Officer	NIL	NIL
3	Mr. Dieter Antonius Pott	Non-Executive Director	NIL	NIL
4	Mr. Hassan Aziz Bilgrami	Non-Executive Director	2	1. Mehran Sugar Mills 2. BioMasdar Pakistan Limited
5	Ms. Ayesha Aziz	Independent Director	4	1. Haleon Pakistan 2. Engro Polymer Co Ltd 3. Alfalah Asset Management Co 4. White Consulting (Pvt) Ltd
6	Mr. Asif Malik	Independent Director	NIL	NIL
7	Mr. Shahid Mehmood	Independent Director	6	1. JPCL (GENCO-I), Jamshoro 2. CPGCL (GENCO-II), Guddu 3. NPGCL (GENCO-III), Muzafargarh 4. LPGCL (GENCO-IV), Lakhra 5. CPPA-G, Islamabad 6. Excel Consulting (Pvt) Ltd
8	Mr. Asim Rafiq	Nominee NIT	4	1. Buxly Paints Ltd 2. Merit Packaging Limited 3. Shahmurad Sugar Limited 4. Shahtaj Sugar Ltd

3.3 اسپانسرز کا پروفائل

KSB SE & Co. KGaA

KSB SE & Co. KGaA پمپس، والوز کی ایک جرمن ملٹی نیشنل مینوفیکچرر ہے جس کا صدر دفتر Frankenthal (Pfalz) جرمنی میں ہے۔ کے ایس بی گروپ کے دنیا بھر میں مینوفیکچرنگ پلانٹس، سیلز اور مارکیٹنگ کے ادارے اور سروس آپریشنز ہیں۔ KSB SE اینڈ کمپنی ڈی کمپنی کی پہلی ایٹین۔ پیسٹک سبسائیڈری 1953 میں پاکستان میں قائم کی گئی تھی۔

KSB SE & Co. KGaA جرمنی، کے ایس بی پمپس کمپنی لمیٹڈ میں 58.89% شیئرز کی مالک ہے۔

4 اجراء کنندہ کی تفصیلات

4.1 گزشتہ تین سالوں کے دوران اجراء کنندہ کے اہم مالی نکات

	FY2023	FY2022	FY2021
<i>Amounts in PKR Million</i>			
Name of the Statutory Auditor	A.F. Ferguson & Company, Chartered Accountant		
Revenue / Sales	5,755	4,965	4,334
Gross Profit	1,174	775	594
Profit before interest and tax	384	328	140
Profit after tax	0.843	43.342	27.290
Net profit	0.843	43.342	27.290
Accumulated profit	3.272	36.562	26.468
Total Assets	6,248	5,743	5,878
Total Liabilities	4,233	3,732	3,891
Net equity	2,014	2,012	1,987
Break-up value per share (PKR) ⁸	152.60	152.40	150.50
Earnings per share (PKR)	0.06	3.28	2.07
Cash Dividend (%)	0%	0%	8.5%
Bonus Issue (%)	0%	0%	0%

4.2 گزشتہ ایک سال کے مربوط مالی حسابات کے مالی نکات:

قابل اطلاق نہیں ہے

4.3 گزشتہ پانچ سالوں میں سرمائے کے اجراء کی تفصیلات:

قابل اطلاق نہیں ہے

8 فی شیئرز ایک اپ ویلیو کا حساب اس طرح لگایا جاتا ہے: کل ایکویٹی کو حصص کی تعداد سے تقسیم کیا جاتا ہے۔

4.4 گزشتہ چھ مہینوں کے دوران اجراء کنندہ کے شیئرز کی اوسط مارکیٹ پر اس

گزشتہ چھ ماہ (30 اکتوبر، 2023 – 29 اپریل، 2024) کے دوران کے ایس بی پمپس کمپنی لمیٹڈ کے شیئرز کی اوسط مارکیٹ پر اس 126.06 پاکستانی روپے فی شیئر ہے۔

4.5 شیئر کیپٹل اور متعلقہ معاملات

اجراء کنندہ کی شیئر ہولڈنگ کا پیٹرن:

Categories of shareholders	Shareholders	No. of Shares Held	% holding
Directors, Chief Executive Officer and their spouse(s) and minor children			
NIL	-	-	-
Associated Companies, undertakings and related parties			
M/S. KSB SE & Co. KGaA	1	7,772,975	58.89%
Sub total	1	7,772,975	58.89%
NIT and ICP	1	1,087,559	8.24%
Banks, DFIs, non-banking Financial Institutions	3	551,535	4.18%
Insurance Companies	1	256,273	1.94%
Modarabas and Mutual Funds	2	55,700	0.42%
General Public			
A) Local	1,036	3,116,654	23.61%
B) Foreign	7	18,200	0.14%
Others	17	341,104	2.58%
Total	1,068	13,200,000	100.00%

اجراء کنندہ کے ڈائریکٹرز، اسپانسرز اور اہم شیئر ہولڈرز کی ملکیت میں شیئرز (موجودہ اور رائٹ ایشو کے بعد)

Shares held by	Existing Shareholding	% share holding	Post Right Shareholding	% share holding
Substantial Shareholders	Shares held	%	Shares held	%
M/S. KSB SE & Co. KGaA	7,772,975	58.89%	18,195,828	58.89%

ہولڈنگ کمپنی کی تفصیلات اور شیئر ہولڈنگ:

KSB SE & Co. KGaA پمپس، والوز کی ایک جرمن ماٹینریل کمپنی ہے جس کا صدر دفتر Frankenthal (Pfalz) جرمنی میں ہے۔ کے ایس بی گروپ کے دنیا بھر میں مینوفیکچرنگ پلانٹس، سبزی اور مارکیٹنگ کے ادارے اور سروسز آپریشنز ہیں۔ KSB SE اینڈ کمپنی دی کمپنی کی پہلی ایشین۔ پیسٹ سبزیڈری 1953 میں پاکستان میں قائم کی گئی تھی۔

KSB SE & Co. KGaA جرمنی، کے ایس بی پمپس کمپنی لمیٹڈ میں 58.89% شیئرز کی مالک ہے۔

5. خطرے کے عوامل

5.1 رائٹ ایشو سے منسلک خطرہ

کم سبسکریپشن کا خطرہ

اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ ہوسکتا ہے کمپنی کے شیئر ہولڈرز کی طرف سے دلچسپی کے فقدان کی وجہ سے رائٹ ایشو کم سبسکرائب ہو۔ کمپنی کا رائٹ ایشو ایک ایسی قیمت پر کیا جا رہا ہے جو مارکیٹ میں موجودہ شیئر پرائس سے کم ہے، لہذا رائٹ ایشو کے ساتھ سرمایہ کاری کا کوئی بڑا خطرہ منسلک نہیں ہے۔ کمپنی کے بڑے شیئر ہولڈرز اور ڈائریکٹرز نے تصدیق کی ہے کہ وہ اپنے رائٹ ایشو استحقاقات کو سبسکرائب کریں گے (یا سبسکریپشن کا انتظام کریں گے) جبکہ رائٹ ایشو کا باقی حصہ قابل اطلاق قوانین کے مطابق انڈر رائٹ ہوگا۔

5.2 اجراء کنندہ کے ساتھ منسلک خطرہ

خطرے کے داخلی عوامل

آپریشنل خطرہ

کاروباری خطرے میں وہ غیر یقینی حالات اور امکانی خدشات شامل ہیں جن کا سامنا کسی بزنس کو روزمرہ کے آپریشنز خاص طور سے پلانٹ آپریشن کے حوالے سے کرنا پڑتا ہے۔ یہ داخلی پروسیجرل بریک ڈاؤنز، عملے کے مسائل یا سسٹمز کی ناکامیوں سے پیدا ہوتا ہے۔

ہنرمند اسٹاف کے ٹرن اور کی بہت زیادہ شرح، کمپنی کی سپلائی چین میں خلل یا ناکافی منصوبہ بندی جیسے محرکات کاروباری خطرے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔

کمپنی، آپریشنل خطرے پر قابو پانے کے لیے اسٹاف کو روکے رکھنے جیسے تعاون پر مبنی اقدامات پر عمل کر رہی ہے جن میں ٹرن اور کی بہت زیادہ شرح سے منسلک مشکلات کو دور کرنے کے لیے تربیتی پروگرام اور مسابقتی فوائد شامل ہیں۔ اس کے علاوہ، کمپنی سپلائی چین منصوبہ بندی کے بارے میں متنوع سوچ اختیار کر رہی ہے اور خلل کا مقابلہ کرنے، تسلسل کو یقینی بنانے اور اپنے آپریشنز میں استحکام کے لیے مضبوط حکمت عملی پر عمل درآمد کر رہی ہے۔

پروکیورمنٹ کا خطرہ

اپنے ملک میں پمپ اور والوز سیکٹر کے ایک ممتاز پلیئر کی حیثیت سے ہم ان موروثی پروکیورمنٹ خطرات کو سمجھنے کی اہمیت سے واقف ہیں جو ہمارے بزنس آپریشنز کے ساتھ ہیں۔ اس بات کے پیش نظر کہ ہماری پروکیورمنٹس کا ایک بہت بڑا حصہ درآمدات پر انحصار کرتا ہے، ہم شرح تبادلہ میں اتار چڑھاؤ، ڈیویڈنڈ اسٹریکچر اور درآمدی ضابطوں جیسے مختلف عوامل سے متاثر ہوتے ہیں۔ کرنسی کی شرح تبادلہ میں کمی بیشی خام مال کی لاگت پر براہ راست اثر انداز ہو سکتی ہے، اس طرح ہماری باٹم لائن پر اثر پڑتا ہے۔

شفافیت کے بارے میں اپنے غیر متزلزل عزم میں ہم تعاون پر مبنی پروکیورمنٹ حکمت عملیوں، سپلائر کے حوالے سے تنوع کی کوششوں اور مارکیٹ کی حرکیات کی محتاط نگرانی کے ذریعے ان خطرات پر فعال طریقے سے قابو پاتے ہیں۔ ان محرکات پر نظر رکھتے ہوئے اور موثر رسک مینجمنٹ اقدامات پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے پروکیورمنٹ پراسیسز کی مستقل مزاجی اور استحکام کو یقینی بناتے ہیں، اس طرح اپنے آپریشنز کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے سٹیک ہولڈرز کو قدر فراہم کرتے ہیں۔

کریڈٹ کا خطرہ

کریڈٹ رسک اس صورت میں ہونے والے مالی نقصان کے خطرے کو ظاہر کرتا ہے کہ اگر دوسرا فریق ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہو جائے۔ کریڈٹ رسک بینکوں میں ڈیپازٹس اور دوسرے receivables سے پیدا ہوتا ہے۔ کمپنی کا کریڈٹ رسک نقد اور نقد کے مساوی اور بینکوں اور مالی اداروں میں ڈیپازٹس، کسٹمز کو کریڈٹ ایکسپوزرز، بشمول واجب الادا قابل وصولی اور وعدے کے تحت کیے جانے والے لین دین سے پیدا ہوتا ہے۔

انتظامیہ، مالی پوزیشن، ماضی کے تجربے اور دیگر عوامل پر غور کرتے ہوئے کسٹمز کی کریڈٹ کوالٹی کا جائزہ لیتی ہے۔ خطرے کی انفرادی حدود، بورڈ کی طرف سے متعین کردہ حدود کے مطابق داخلی یا خارجی ریٹنگز کی بنیاد پر طے کی جاتی ہیں۔ قرضے کی حدود کے استعمال کی باقاعدگی سے نگرانی کی جاتی ہے اور ریٹیل کسٹمز کو زیادہ تر سیلز نقد میں کی جاتی ہیں۔ بینکوں اور مالی اداروں کے لیے، مضبوط کریڈٹ ریٹنگ کے ساتھ صرف ایسی پارٹیوں کو قبول کیا جاتا ہے، جن کی غیر جانبداری کے ساتھ ریٹنگ کی گئی ہو۔

لیکویڈٹی کا خطرہ

لیکویڈٹی رسک اس خطرے کو ظاہر کرتا ہے کہ کمپنی کو مالی لیکویڈٹی سے منسلک ذمہ داریاں پوری کرنے میں مشکلات کا سامنا ہوگا۔ محتاط لیکویڈٹی رسک مینجمنٹ کا مطلب ہے کافی نقد کو سنبھالے رکھنا، وعدہ شدہ کریڈٹ سہولتوں کی معقول مالیت کے ذریعے فنڈنگ کی دستیابی۔ کمپنی کے بزنس کی متحرک نوعیت کی وجہ سے اس کا فنانس ڈیپارٹمنٹ وعدہ شدہ کریڈٹ لائنز کے تحت مالی دستیابی کا اہتمام کرتے ہوئے فنڈنگ میں چک کو برقرار رکھتا ہے۔

انتظامیہ متوقع کیش فلوی کی بنیاد پر کمپنی کے کیش اور کیش کے مساوی کی پیش گوئیوں پر نظر رکھتی ہے۔ عام طور پر یہ کام کمپنی کی طے کردہ روش اور حدود کے مطابق کیا جاتا ہے۔ اس مارکیٹ کی لیکویڈٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے جس میں ادارہ کام کرتا ہے، محل وقوع کے لحاظ سے یہ حدود مختلف ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ، کمپنی کی لیکویڈٹی مینجمنٹ پالیسی میں ہر سہ ماہی میں کیش فلوز کی پروجیکٹنگ اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے ضروری لیکویڈٹی اثاثوں کی سطح پر غور شامل ہے؛ داخلی اور خارجی ریگولیٹری ضروریات کے عوض فنانشل پوزیشن لیکویڈٹی ریٹوز کے اسٹیٹمنٹ کا جائزہ اور debt فنانسنگ منصوبوں کو برقرار رکھنا۔

زیر التوا مقدمات

تمام مادی قانونی کارروائیوں کی تفصیلات کا ذکر اس آفر ڈاکومنٹ کے سیکشن 6 میں موجود ہے۔ کمپنی کی انتظامیہ ان کارروائیوں کے موافق نتیجے کے بارے میں پراعتماد ہے۔

ایس ای سی پی اور پی ایس ایکس کے ضابطوں کی عدم تعمیل کا خطرہ

ایس ای سی پی یا پی ایس ایکس کے کسی ریگولیٹری تقاضے کی عدم تعمیل کی صورت میں کمپنی کو پی ایس ایکس کے ڈیفالٹریگمنٹ پر ڈالا جاسکتا ہے، جس سے امکانی طور پر کمپنی کے شیئرز کی خرید و فروخت میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے، اس سے کمپنی کے شیئرز کی خرید و فروخت امکانی طور پر معطل ہو سکتی ہے اور اسے ڈی لسٹ بھی کیا جاسکتا ہے۔

کمپنی نے ایس ای سی پی اور پی ایس ایکس کے ضابطوں کی عدم تعمیل کے خطرے کی روک تھام کی خاطر رہنمائی کے لیے قانونی توفیق اور مالی مشیروں کی خدمات حاصل کی ہیں، ریگولیٹری تبدیلیوں کی مسلسل نگرانی کی جاتی ہے اور ریگولیٹری اداروں کے ساتھ کھلا رابطہ برقرار رکھا جاتا ہے۔ ان اقدامات کا مقصد ریگولیٹری تقاضوں کی بروقت تعمیل کو یقینی بنانا ہے۔

خطرے کے خارجی عوامل

کاروباری خطرہ

کاروباری خطرہ کمپنی کا ایسے عوامل کی زد میں آجانا ہے جو اس کے منافع کو کم کر سکتے ہیں حتیٰ کہ اس کی حیثیت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ایسے بعض عوامل مندرجہ ذیل ہیں:

- خام مال اور پمپ کے پرزہ جات کی قیمتوں میں اضافہ۔
- شرح تبادلہ میں اتار چڑھاؤ
- توانائی کی بڑھتی ہوئی لاگت
- پمپ مینوفیکچرنگ سے متعلق مصنوعات کی درآمد پر کسٹم ڈیوٹیوں اور ریگولیٹری ڈیوٹیوں کا نفاذ اور شرحوں میں اضافہ
- تیل کی قیمتوں اور ایکسل لوڈ شرائط کے باعث بار برداری کی لاگت میں اضافہ
- معاشی سست روی، بڑھتی ہوئی مہنگائی وغیرہ کی وجہ سے کسٹمر کی مانگ میں کمی۔

مارکیٹ کا خطرہ

مارکیٹ رسک میں کرنسی رسک، قیمت کا خطرہ اور شرح سود کا خطرہ شامل ہے۔ کرنسی رسک کا تعلق غیر ملکی کرنسی کی شرح تبادلہ میں کمی بیشی سے ہے جس کا اثر منصفانہ قدر یا فنانشل انسٹرومنٹس کے مستقبل کے کیش فلوز پر پڑتا ہے۔ کمپنی کے بین الاقوامی آپریشنز کے باعث اسے کرنسی رسک، خاص طور سے امریکی ڈالر اور یورو سے متعلق رسک کا سامنا رہتا ہے۔ یہ خطرہ متوقع تجارتی لین دین اور موجودہ اثاثوں اور غیر ملکی کرنسیوں میں ادا کی جانے والی ذمہ داریوں سے پیدا ہوتا ہے۔

دوسرے پرائس رسک کا تعلق فنانشل انسٹرومنٹس و بلیوز یا مارکیٹ پرائس تبدیلیوں کی وجہ سے مستقبل کے کیش فلوز میں امکانی اتار چڑھاؤ سے ہے، ان کو چھوڑ کر جو شرح تبادلہ یا یا کرنسی میں فرق سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگرچہ کمپنی کو ایکویٹی سیکورٹیز میں سرمایہ کاری کی غیر موجودگی کی وجہ سے ایکویٹی پرائس رسک کا سامنا نہیں ہے، اس کا متنوع سپلائر پورٹ فولیو اسے کموڈٹی پرائس رسک سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔

شرح سود کے خطرے کا تعلق مارکیٹ کی سود کی شرحوں میں اتار چڑھاؤ سے ہے جو منصفانہ قدر یا فنانشل انسٹرومنٹس کے مستقبل کے کیش فلوز پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگرچہ کمپنی کے پاس لمبی مدت کے سود والے زیادہ اثاثے نہیں ہیں، اسے طویل المدت اور قلیل المدت دونوں قرضوں کے ذریعے شرح سود کے رسک کا سامنا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ مختلف شرح سود پر حاصل کردہ قرضے کمپنی کو شرح سود میں فرق کے ساتھ منسلک کیش فلوز میں اتار چڑھاؤ کے لیے ایکسپوز کرتے ہیں۔

شرح سود کا خطرہ

شرح سود کا خطرہ بہت بڑی تشویش ہے جو مارکیٹ میں سود کی شرحوں میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے امکانی طور پر فنانشل انسٹرومنٹس کی قدر کو متاثر کرتا ہے۔ خاص طور سے، کمپنی کے قرض کے انتظامات سود کی مختلف شرحوں سے مشروط ہیں جس کی وجہ سے اس خطرے کا سامنا رہتا ہے۔ سود کی بلند شرحیں قرض کے اخراجات بڑھا سکتی ہیں، جس سے کمپنی کے لیے فنانشنگ آپریشنز کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں کاروباری اخراجات میں مندی ہو سکتی ہے، معاشی پھیلاؤ میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے اور منافع کم ہو سکتا ہے۔ مزید برآں، قرض کی زیادہ لاگت نئے کاروباری منصوبوں میں رکاوٹ بن سکتی ہے، سرمایہ کاری کی سرگرمیوں کو روک سکتی ہے کیونکہ نئے منصوبوں کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ شرح سود میں ہر 1% تبدیلی کا سالانہ فنانشل لاگت پر 18.6 ملین پاکستانی روپے کا اثر پڑتا ہے۔

غیر ملکی زرمبادلہ کا خطرہ

غیر ملکی کرنسی کے خطرے کا تعلق غیر ملکی شرح تبادلہ میں تبدیلیوں کی وجہ سے منصفانہ قدر میں امکانی اتار چڑھاؤ یا کسی فنانشل انسٹرومیٹ کے مستقبل کے کیش فلوز سے ہے۔ کمپنی کے لیے یہ خطرہ زیادہ تر متوقع معاشی لین دین یا غیر ملکی کرنسیوں میں واجب الادا ریسیوا بیلز اور پے ایبلز سے پیدا ہوتا ہے۔ خاص طور سے، کمپنی کو بنیادی طور پر امریکی ڈالر اور یورو کے حوالے سے غیر ملکی کرنسی رسک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس خطرے کو کم کرنے میں مبادلہ کی شرحوں کی مستعد نگرانی اور نیٹ ایکسپوزر کی ایڈجسٹمنٹس شامل ہیں۔ فی الوقت کمپنی کو بالخصوص خام مال کی درآمد اور فاضل پرزہ جات کی درآمد کے لیے استعمال کردہ لیٹر آف کریڈٹ (L/Cs) کے ذریعے فارن کرنسی رسک کا سامنا ہے۔ غیر ملکی تبادلے کی شرحوں میں 10% اتار چڑھاؤ کا نتیجہ کمپنی کی لاگت پر اندازاً 7% اثر کی صورت میں نکلتا ہے۔

قدرتی آفت کا خطرہ

قدرتی آفت کی وجہ سے مینوفیکچرنگ فیسلٹی کی تباہی۔ کسی سانحہ کی صورت میں کمپنی کے پاس انشورنس کا جامع تحفظ ہے۔ اس کے علاوہ کمپنی نے عمارت اور پلانٹ کی تعمیر اور تنصیب کے دوران حفاظتی اقدامات کے ہر ممکن پہلو کو پیش نظر رکھا۔ غیر یقینی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کمپنی کے پاس ایک بہتر ڈیزاسٹر ریکوری پلان اور ڈیٹا بیک اپ فیسلٹی ہے۔ کمپنی کے پاس فیکٹری کے احاطے میں آگے بھانے کے مناسب انتظامات ہیں۔

منافع بخش

مالی سال 2023 کے لیے کمپنی کا بعد از ٹیکس منافع مالی سال 2022 کے 43 ملین روپے کے مقابلے میں 843 ہزار روپے تھا۔ اس کمی کی بنیادی وجہ قیمت کے تیزی سے دباؤ، سپلائی میں خلل اور سود کی زیادہ شرحیں ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے، کمپنی کو سیلز کی اپنی رفتار تیز کرنے اور آپریٹنگ کیش فلوز میں بہتری کی امید ہے جسے اضافی کاروباری سرمائے کے انجیکشن کی مدد حاصل ہے۔ اس کے علاوہ شرح سود میں کمی کی امید بھی باٹم لائن میں مدد دے گی۔

نوٹ: بیان کیا جاتا ہے کہ ہمارے بہترین علم اور فہم کے مطابق خطرے کے تمام مادی محرکات منکشف کر دیئے گئے ہیں اور اس ضمن میں کسی بات کو مخفی نہیں رکھا گیا۔

(اس جگہ کو جان بوجھ کر خالی چھوڑ دیا گیا ہے)

6.1 کمپنی کی زیر التوا قانونی کارروائیاں

یہ کاروباری آپریشنز کے بارے میں اتفاقی اور معمول کی چارہ جوئی ہے، جس میں کمپنی فریق ہے جس کا کمپنی پر مادی اثر پڑ سکتا ہے۔ علاوہ ازیں، قانونی چارہ جوئی کے ان معاملات کا ذکر 31 دسمبر 2023 کو ختم ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ مالی حسابات میں کیا جا چکا ہے اور مزید تفصیلات کے لیے رجوع کیا جاسکتا ہے۔

S. No.	<u>Audited Financial Statement FY 2023 Note #</u>	<u>Case No.</u>	<u>Case Title</u>	<u>Institution</u>	<u>Date Issuing Authority</u>	<u>Tax Period</u>	<u>Order Amount / Financial Impact (PKR/ Million)</u>	<u>Current Status</u>	<u>Comments of Management/ Legal Advisor</u>
1	13.1.2	N/A	N/A	Federal Board Of Revenue (IRS)	14-May-19	2017	35.6	DCIR raised demand 35.6 million against order 161 and we filled appeal before CIR(A) in which all demand deleted.	The management and the taxation expert of the Company believe that there are meritorious grounds available to defend the foregoing demand. Consequently, no provision has been recorded in these Financial statements.
2	13.1.3	N/A	N/A	Federal Board Of Revenue (IRS)	13-Aug-21	2015	13.9	DCIR raised demand Rs: 13.9 Mio against order 161/205. We filled appeal before CIR(A) in which CIR partly granted relief and remand back Ground No.9 BTL payments. We submitted supporting documents before DCIR against remand back order and DCIR deleted demand and issued order in our favor.	The management and the taxation expert of the Company believe that there are meritorious grounds available to defend the foregoing demand. Consequently, no provision has been recorded in these Financial statements.
		N/A	N/A	Federal Board Of Revenue (IRS)	27-Nov-20	2016	1.8	DCIR raised demand 3.1 million against order 161 and we filled appeal before CIR(A) in which net demand Rs.1.8 million is payable.	The management and the taxation expert of the Company believes that there is meritorious ground available to defend the foregoing demand. Consequently, no provision has been recorded in these Financial statements.

3	13.1.4	N/A	N/A	Federal Board Of Revenue (IRS)	13-Aug-21	2015	352.8	ADCIR raised demand 352,804,494 against order 122(5A) and we filed appeal before CIR(A) in which all demand deleted and FBR filed appeal before ATIR.	The management and the taxation expert of the Company believes that there is meritorious ground available to defend the foregoing
4	13.1.5	N/A	N/A	Federal Board Of Revenue (IRS)	15-Apr-22	2018	69.18	DCIR raised demand 69 million during WH audit U/S 161 and we filed appeal before CIR(A) and he remanded back to DCIR. Case is pending before DCIR.	The management and the taxation expert of the Company believes that there is meritorious ground available to defend the foregoing demand. Consequently, no provision has been recorded in these financial statements.

6.2 معمول کے کاروباری طور طریقے کے علاوہ کوئی اور زیر التوا قانونی کارروائی جس میں اجراء کنندہ، اس کے اسپانسرز، بڑے شیئر ہولڈرز، ڈائریکٹرز اور ایسی ایسوسی ایٹڈ کمپنیاں شامل ہوں، جن پر اجراء کنندہ کا کنٹرول ہے اور جس کا اجراء کنندہ پر مادی اثر پڑ سکتا ہو: کوئی نہیں

6.3 پچھلے تین سالوں کے دوران سیکورٹیز ایکسچینج کی طرف سے اپنے ضابطوں کی عدم تعمیل پر اجراء کنندہ، یا اجراء کنندہ کی ایسوسی ایٹڈ لسنڈ کمپنیوں کے خلاف کی جانے والی کارروائی۔
ایس ای سی پی نے یکم اپریل 2017 کے سیکشن 166 کی عدم تعمیل پر 22.02.2023 کو -/25,000 روپے کی پناٹی عائد کی۔ کمپنی کی جانب سے فوری طور پر اصلاح کے تمام اقدامات کیے گئے۔

(اس جگہ کو جان بوجھ کر خالی چھوڑ دیا گیا ہے)

7. پیشکش کی دستاویز کے دستخط کنندگان



جناب شاہد محمود
ڈائریکٹر



جناب عمران غنی
چیف ایگزیکٹو آفیسر

نوٹ: دستخط کنندگان کو بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ان کی طرف سے پیشکش کی حتمی دستاویز پر دستخط کرنے کا اختیار دیا ہے۔

(آفر ڈاکومینٹ کا اختتام)

Disclosure in tabular form of SECP Comments on the Offer Document - KSB Pumps Company Limited

S.No	Comments received on Offer Document of KSB Pumps Company Limited ("the Company") in compliance with regulation 3 (3)(v) of the Companies (Further Issue of Shares) Regulations, 2020 (the Regulations)	Responses/rationale to SECP Comments in the Offer Document
1	Cover Page	
i.	Insert date of validity of Offer Document (OD) in the paragraph titled 'Advice for investors	Has been incorporated
ii.	Date of final offer letter, book closure, subscription amount payment. and trading letter of rights to be added in the final OD.	Has been incorporated
iii.	Insert the complete link to download the offer letter after the details of Banker to the Issue.	Has been incorporated
2	Undertaking by the CEO and CFO	
i.	Undertaking shall be signed by the respective signatories in the final document	Has been incorporated
3	Undertaking by the Board of Directors	
i.	Insert dates in the final OD	Has been incorporated
ii.	Undertaking shall be signed by the respective signatories in the final OD	Has been incorporated
4	Glossary of Technical Terms and Definitions	
i.	Eliminate the duplication of the definitions for 'Company' and 'Commission' in both the 'Glossary of Technical Terms' and 'Definitions' sections.	Has been incorporated
5	Salient Features of the Right Issue in draft Offering Document	
i. Section 1.2 Details of the principal purpose of the Right Issue		
(a)	in first paragraph, please explain whether the funds will be used to repay debt related to working capital or finance new working capital requirements	The comment has been incorporated. The utilization is partly debt repayment related to working capital and partly financing new working capital requirement.
(b)	In paragraph titled 'Activities that are classified as working capital' write the breakup of the working capital i.e., receivable, inventory, payables etc. Moreover, the first activity, "To payoff running finances loans and save finance costs" is not part of the working capital and may be deleted.	The breakup of the working capital requirement has been provided, and the first activity has been removed from the section.
(c)	in paragraph titled 'basis for estimation of working capital requirement, along with relevant assumptions' provide clear disclosures how the factors such as economic slowdown, high interest rates and increased exchange ratio result in increased working capital.	The section has been rephrased to provide clear disclosure of the impact of mentioned factors.
(d)	in paragraph titled as 'Cash Conversion Cycle in Number of days for last three years', Cash conversion cycle has been improved in FY 2024 but in paragraph titled 'Reasons for raising additional working capital' it is mentioned that owing to current economic situation and slowdown in business activities including significant rise in input costs, overall operating cycle has been impacted in the FY 2023. Inconsistency in both paragraph may be addressed to avoid ambiguity.	The working capital cycle has improved due to measures taken by the Company in response to rising costs. This has been amended in the offer document to address any ambiguity.
ii. Section 1.3 Financial effects arising from the right issue:		
(a)	disclose the calculation of the net assets/breakup value per share by adding figures of net assets and number of shares used for pre-issue and post-issue breakup value per shares calculation in the footnote.	Has been incorporated
(b)	Disclose the basis of estimation of the Market Share.	Has been incorporated
iii. Section 1.5 Details of Underwriters: amount underwritten shall be disclosed in the final OD.		Has been incorporated
iv. Section 1.8 important dates: relevant days and dates shall be disclosed against each activity in final OD.		Has been incorporated
6	Subscription Amount Payment Procedure	
i.	disclose the dates in the final OD.	Has been incorporated
ii.	under point (b), insert the full link to download Right Subscription Request Form.	Has been incorporated
7	Profile of the board of directors of the company	
i.	Section 3.2 provide the names of the companies where he directors have directorship.	Has been incorporated
ii.	Section 3.3 ensure compliance required under sub-para (v) of the Para 9 of Schedule I related to Form 43 and Form 45 for KSB SE & Co.	Has been incorporated
8	Financial Details of the Issuer	
i.	Section 4.4 Average market price of the share of the issuer: disclose the average market price for last six months preceding the date of board announcement.	Has been incorporated
9	Risk Factors	
i.	Section 5: Risk factors may be drafted more specifically in relation to the Company and Right Issue being offered with some quantification, if any , and measure to mitigate these.	Has been incorporated
10	Signatories to the offer document	
i.	Disclose in the footnote that the signatories are authorised by the BOD to sign he final OD on their behalf.	Has been incorporated